



نصوص لاتينية

إعداد

د. أسامة ابراهيم

كلية الآداب

قسم : الفلسفة

العام الجامعي

2023/2022

بيانات الكتاب

الكلية: الآداب بقنا

الفرقة: الرابعة

التخصص: لغة لاتينية

تاريخ النشر: 2023/2022

عدد الصفحات: 245

المؤلفون: د. أسامة ابراهيم علي

الرموز المستخدمة

نص للقراءة والدراسة



أنشطة ومهام



أسئلة للتفكير والتقييم الذاتي




فيديو للمشاهدة



رابط خارجي



تواصل عبر مؤتمر الفيديو



المحتوى

الموضوع	رقم الصفحة
نماذج مختارة من النصوص اللاتينية القديمة	4 - 139
دليل اعراب الأسماء والصفات	140 - 147
قاموس لاتيني - عربى	148 - 243
قائمة بأسماء بعض المراجع المستخدمة فى الكتاب	244

Latin Texts

Dr. Osama Ibrahim

IN ITALIA

Erat fluvius Italiae latus et pulcher, cuius nomen Tiberis erat, Circum ripas fluvii aves volabant et cantabant. Huc mane gaudio magno Aeneas naves verterat. Hic tandem Troianis finis erat periculorum maris, et nautae post longum iter defessi ad terram venerant. Incolae loci Latini erant, qui primo Troianos salutaverunt. Sed mox Juno eos ad bellum excitavit. Itaque Aeneas magnum bellum in Italia gessit, tandem latinos gentesque, qui Latinorum socii erant, superavit, Turnum, ducem Italorum, ad pugnam Aeneas provocavit et occidit. Inde pacem cum Latinis confirmavit, muros aedificavit, urbem Lavinium condidit. mores suos deosque Latinis dedit. post mortem eius filius Iulus Albam Longam condidit: Romulus, ex gente Albana, post multos annos urbem Romam condidit. Sic Roma ex urbe Troia originem habuit, Iulius Caesar, qui Galliam vicit primusque Romanorum Britanniam oppugnavit, nomen ab Iulio, filio Aeneae, habet.

VOCABULA

fluvius (m) 2 نهر مج	latus,a,um فسيح , واسع
nomen (n) 3 أسم مج	Tiberis (m)3 نهر التيبير مج
Circum(حرف جر)بالقرب من,	Ripa, ae (F) 1 ضفة, مج
Avis, is 3 طائر, فأل مج	Volo,are 1 يطير مج
Canto, are 1 يغنى, مج	Huc هنا (ظرف)
Mane(ظرف)فى الصباح	Gaudium,ii (n) 2 فرح, سرور, مج
Verto, ere 3 يقلب, يحول, يعكس مج	Finis, is (m) 3 نهاية, حد مج
Mare, maris(n)3 بحر, مج	Iter, itineris(n) 3 رحلة, مج
Defessus,a,um مرهق, متعب	Venio, ire 4 ياتى, يصل مج
Saluto, are 1 يرحب, يحيى, مج	Locus,i (m) 2 مكان, موضع, مج
Excito, are 1 يثير , يستفز, يخرج, مج	gero, ere 3 يشن حربا , مج
Gens, gentis (f)3 قبيلة, شعب مج	Turnus, i (m) 2 تورنوس مج
Dux, ducis (m) 3 قائد, مج	Provoco, are 1 يتحدى, يشجع, مج
Occido, ere 3 يقتل , مج	pax, pacis (f) 3 سلام, مج
Latinus, I (m) 2 لاتينى, مج	Confirmo, are 1 يؤسس, يؤكد, مج
Aedifico,are 1 يبنى , يشيد, مج	Lavinium, I (n) 2 مدينة فى لاتيوم مج
Condo, ere 3 يؤسس, يصنع, مج	mos, oris (m) 3 عادة, تقليد, طبع, مج
Do, dare, dedi, 1 يعطى, يمنح, مج	Iulus,I (m) 2 ابن اينياس, مج
Alba Longa,(f) مدينة فى لاتيوم	Albanus,a,um 1 من مدينة البا, مج
Annus,I (m) 2 عام , سنة, مج	Origo,ginis (f) 3 اصل , مج
Vinco, cere, vici, 3 ينتصر , مج	Oppugno, are 1 يهاجم , مج

Dei Romani

Romani deos multos et deas multas adorant et ad templa saepe ambulant. Juppiter in caelo habitat et est bonus et magnus. Mercurius est nuntius deorum. per terram et aquam ambulat et ad viros et deos famas portat. Nautae Neptunum adorant quod deus Oceani est. In aqua habitat et amicus nautarum est. Mars viros in bellis curat. Vulcanus est deus et deis arma dat. Etiam hodie magna est fama deorum Romanorum sed hodie in Italia deos multos non adorant.

VOCABULA

Adoro, are 1 مج , يعبد	templum, I (n) 2 مج , معبد
Ambulo, are 1 مج , يسير, يمشى	Caelum, I (n) 1 مج , سماء
Mercurius, I (m) 2 مج ميركوريوس	Nuntius, I (m) 2 مج , رسول
porto, are 1 مج , يحمل	Nuptunus, I (m) 2 مج , نبتون
Oceanus, I (m) 2 مج , محيط	Mars, ris (m) 3 مج , مارس
Vir, I (m) 2 مج , رجل	Bellum, I (n) 2 مج , حرب
Curo, are 1 مج , يهتم بي, يعتنى بي	Vulcanus, I (m) 2 مج , الة النار والحدادة
Etiam (حرف ربط) حتى , أيضا	Hodie (ظرف) اليوم

Servi

Romani servos multos et servas multas habent. Romani servos in bello occupant. Ex oppidis Graeciae ad Italiam servos portant. Ex oppidis Africae ad Italiam servos portant. Ex oppidis Britanniae ad Italiam servos portant. Ex oppidis Graeciae et Africae et Britanniae ad Italiam servos portant. Servi sunt boni, sed in Italia saepe non sunt laeti. Servi sunt praeda belli. Multi servos bene curant, sed multi servos male curant. Servi in agris et in casis et in viis laborant. Saepe aegri sunt, sed multi servos aegros bene curant. Romani servis multa dant et curam bonam dant. Servi dominos bonos et dominas bonas bene amant. Multi servi sunt clari et filios dominorum iuvant. Multi domini servos bonos liberant. Multi servi liberi sunt viri clari.

VOCABULA

Servus, I (m) 2 مج , عبد	Occupo, are 1 مج , يستولى على
Oppidum, I (n) 2 مج , مدينة	Laetus, a, um 1 مج , سعيد
Praeda, ae (f) 1 مج , غنيمة	Curo, are 1 مج , يهتم ب
Aeger, gra, rum 1 مج , ضعيف	Ager, agri (m) 2 مج , حقل
Liber, are 1 مج , يحرر	Liber, a, um 1 مج , حر

Claudius in Britannia

Britannia aurum et argentum habet. Claudius aurum et argentum amat. Claudius copias multas et nautas multos habet. Claudius copias et nautas bene monet. Copiae et nautae clamant et verba domini laudant. Copiae et nautae ad Britanniam navigant. Romani bellum amant. Britanni bellum non amant. Romani bene pugnant. Britanni male pugnant. Romani insulam intrant et Britannos hastis et sagittis vulnerant. Romani Britannos superant et victoriam habent. Romani in viis cantant. Romani ad Italiam aurum et argentums et servos et servas portent. Claudius copias et nautas Romanos laudat. Britannia est provincial romae.

VOCABULA

Aurum, I (n) 2 مج , ذهب	Argentum, I (n) 2 مج , فضة
Claudius, (m) 2 مج , كلاوديوس	moneo,ere 2 مج , ينصح, يحذر
Clamo, are 1 مج , يصيح, يهتف	Verbum,I (n) 2 مج , كلمة, قول
Intro, are 1 مج , يدخل	Hasta, ae (f) 1 مج , حربة
Sagitta, ae (f) 1 مج , سهم	Vulnero,are 1 مج , يجرح, يصيب
Supero, are 1 مج , يتغلب على	Provincia, ae (f) 1 مج , ولاية, مقاطعة

Magna Roma

Romani in Italia habitabant ; patriam amabant et saepe contra finitimos pugnabant. Non solum finitimorum sed etiam barbarorum copias oppugnabant. Late per Italiam colonias collocabant : in Gallia victoriam saepe reportabant : Graecos superaverunt, etiam ad Asiam navigaverunt. Non solum propter victories sed etiam propter sapientiam famam comparabant : ad philosophiam et litteras animos applicabant. Cum finitimis, ubi superaverant, amicitiam confirmabant : barbaros ad disciplinam informabant. Nos procul ab Italia habitamus : fama tamen Romanorum etiam hodie inter nos durat et semper durabit.

VOCABULA

Finitimi, orum (m) 2	الجيران , مج	Solum (ظرف) , فقط	
Oppugno, are 1	يهاجم, مج	Late (ظرف) , على نحو واسع,	
Colonia, ae (f) 1	مستعمرة, مج	Collo, are 1	يقيم, مج
Reporto, are 1	يحرز, مج	Compare, are 1	يعد, يجهز, مج
Animus, I (m) 2	عقل, روح, نفس, مج	Applico, are 1	يطبق, مج
Disciplina, ae (f) 1	النظام, مج	Informo, are 1	يتدرب, مج
Procul (ظرف) ,	بعيدا,	Duro, are 1	يعبر, مج

Gallia

Gallia, patria Gallorum, erat Germaniae et Hispaniae finitima. Galli proelia et bella non amabant, sed bellum non timebant. Romani contra Gallos saepe pugnabant. Galli pro patria sua tum bene pugnabant. Romani in Gallia legatos habebant quod Galli Romanis amici non erant. legati cum Gallis pugnare saepe parabant. Caesar, vir clarus, in Gallia pugnabat et ob victorias suas gloriam magnam habebat. oppida Galliae erant clara. Ibi erant oppida multa et pulchra ac silvae multae et agri boni. Ob periculum belli Romani in multis terris finitimis legatos habebant. Romani pro patria etiam sine praemiis magnis et praeda pugnabant. Erant in Gallia multi agri lati. Agriculis idonei erat. in Gallia Romani linguam Latinam semper memoria tenebant.

VOCABULA

finitimus,a,um 1 مج 1	مجاور ل,	Proelium,I (n) 2 مج 2	معركة,
Timeo, ere 2 مج 2	يخاف , يخشى,	Legatus, I (m) 2 مج 2	رسول , سفير ,
Periculum, I (n) 2 مج 2	خطر ,	Finitimi,orum (m) 2 مج 2	جيران ,
Praemium, ii (n) 2 مج 2	مكافأة , جائزة,	Praeda, ae (f) 1 مج 1	غنيمة ,
Idoneus,a,um 1 مج 1	ملائم , مناسب,	Teneo, ere 2 مج 2	يحتفظ ب,

Pluto et Proserpina

Hodie fabula est de Proserpina pulchra. Fabula est longa et bona. Poetae fabulam sic narrant : Dea agricolarum est Ceres. Filia est Proserpina. Ceres filiam pulchram amat. Ceres et Proserpina terram et silvas amant et agricolas bene iuvant. Proserpina est pulchra et clara. Incolae terrarum multarum Proserpinam bene amant et laudant. Pluto Proserpinam ad terram infernam portat quod puellam amat. Dea Ceres misera est. Agricolae non laborant et terra non bona est. Pluto agricolis Proserpinam dat et terra est bona et pulchra quod agricolae bene laborant. Aestate Proserpina est cum agricolis et hieme est in terra inferna.

VOCABULA

Proserpina, ae (f) 1 مج , بيرسيفونى	Ceres, Ceris (f) 3 مج كيريس,
Iuvo,are 1 مج , يساعد	Pluto,plutonis (m)3 مج بلوتو ,
Infernus, a,um 1 مج , السفلى	Miserus,a,um 1 مج بانس , تعس ,
Aestas, tatis (f) 3 مج , الصيف	Hiems,hiemis (f)3 مج الشتاء ,

Equus ligneus

Graeci Troiam obsidebant : saepe muros oppugnabant, saepe Troianorum copias superaverunt, non tamen oppidum expugnaverunt. Tandem Ulixes clamat “ Armis oppidum non expugnabimus consilio expugnabimus” tum consilium ostendit. Graeci libentiam parebant. Equum ligneum aedificaverunt : in equo viros multos et intrepidus collocant; tum ad oram discedunt et equum prope muros oppidi relinquunt. Magna turba Troianorum ex oppido excedit. Unus e Graecis in silva prope equum latebat. Troiani e latebris traxerunt et multa interrogabant. multa et falsa respondet. “ Graeci ad oram discedunt : mox ad patriam navigabant : equum Minervae dedicaverunt. Vos si equum in oppidum trahetis, copias in Graeciam ducetis et Graecos bello superabitis”. Itaque Troiani in oppidum traxerunt totus populus propter gaudium convivium celebravit. Tum repente ex equo excedunt Graeci : portas oppidi reserant : reliqui Graeci intrant. Oppidum incendunt et incolas necant.

VOCABULA

Obsideo, ere 2 مج , يحاصر	Murus,I (m) 2 مج , حائط
Expugno,are 3 مج , يقتحم , يستولى على	Ulixes,is (m) 3 مج , أوديسيوس
Consilium,I (n) 2 مج , خطة , حيلة	Ostendo, ere 3 مج , يظهر , يبدي
Libentia,ae (f) 1 مج , بهجة	Pareo, ere 2 مج , يظهر
Aedifico, are 1 مج , يبني , يشيد	Intrepidus,a,um 1 مج , هادئ , ساكن
Colloco, are 1 مج , يضع	Ora, ae (f) 1 مج , شاطئ
Discedo,ere 3 مج , يرحل	Relinquo, ere 3 مج , يترك , يهجر
Turba,ae (f) 1 مج , جمهور , حشد	Excedo,ere 3 مج , يخرج
Lateo,ere 2 مج , يختفي	Latebra,ae (f) 1 مج , مخبأ , مكنن
Traho,ere,Traxi, 3 مج , يجر , يسحب	Interrogo,are 1 مج , يطلب
Falsus,a,um 1 مج , زائف , باطل	Mox (ظرف) , سرعان ما , حالا
Minerva,ae (f) 1 مج , مينيرفا	Dedico, are 1 مج , يكرس , يخصص
Duco,ere 3 مج , يقود , يرشد	Totus,a,um 1 مج , كل , جميع
Gaudium,I (n) 2 مج , سرور , بهجة	Convivium,I (n) 2 مج , احتفال
Repente (ظرف) , فجأة	Resero, are 1 مج , يفتح
Reliquus,a,um 1 مج , بقية , باقى	Intro,are 1 مج , يدخل
Incendo, ere 3 مج , يشعل , يحرق	Neco, are 1 مج , يقتل

Reges Romani

Urbis Romae septem reges erant, Romulus urbem parvam in monte Palatino aedificavit. Urbi nomen Romam dedit Romulus ob sapientiam urbem bene regnabat. Populo consilium bonum dabat. quod in urbe non erant mulieres Romanae finitimos suos ad ludos vocaverunt. Tum feminas puellasque armis obtinuerunt. Et Sabini et socii contra Romanos pugnaverunt, sed copiae Romanae hostes superaverunt. Postea Numa Pompilius erat rex Romanorum. Pacem amabat et populo erat gratus quod Romanis leges multas bonasque dedit. aedificia templaque etiam aedificavit. deinde Romani ab Anco Marcio regnabantur. Multos bello superavit et murum circum montem Caelium aedificavit. Postea Roma a Prisco Tarquinio regnabatur. Circus Maximus, ubi Romani ludos habebant, aedificatus est. Contra Sabinos pugnavit et agris finitimis et monte Capitolio fines urbis auxit. A proximo rege, Servio Tullio, Sabini superati sunt. Romae collem septimum

addidit. Circum colles murum et circum murum fossas aedificavit. Multi in urbe habitabant. Multi erant agricolae et post colles et post flumen agros arabant. Tarquinius Superbus erat ultimus rex Romanus, sed bene diuque regnavit. copiae Tarquini Superbi bene pugnabant et nationes proximas Romae superaverunt.

VOCABULA

Urbs,bis (f) 3 مدينة , مج	Septem (صفة عدد أصلى غير معرب) سبعة ,
Parvus,a,um 1 صغير , ضئيل, مج 1	Mons, ntis (m) 3 جبل , مج 3
Palatinus,a,um تل البالاتين	Sapientia,ae (f)1 الحكمة , مج 1
Mulier,eris (f) 3 زوجة , مج 3	Obtineo,ere,obtinueيقتنى, يملك,يمسك,م 2
Socii,orum (m) 2 حلفاء , مج 2	Gratus,a,um1 مقرر بالجميل, مرحب ب, مج 1
Lex,legis (f) 3 قانون , مج 3	Deinde (ظرف) ثم ذلك ,
Murus,I (m) 2 حائط , سور , مج 2	Circum (ظرف) حول ,
Ludus, I (m) 2 لعبة , مشهد, مج 2	Augeo,ere,auxi2 يزود , ينمى , مج 2
Proximus,a,um1مجالق, التالى, المج 1	Collis,is (m) 3 تل , مج 3
Septimus,a,um 1 سابع , مج 1	Addo,ere,addidi 3 يضيف الى , مج 3
Fossa,ae (f) 1 حفرة , خندق, مج 1	Aro.are 1 يحرث , يفلح الارض , مج 1
Ultimus,a,um 1 الاخر , مج 1	Natio,nationis (F) 3 امة , شعب , مج 3

Antiqua Europa

Sicilia est insula. Sardinia quoque est insula. Sicilia et Sardinia sunt magnae et pulchrae insulae. Britannia quoque est insula. Graecia non est insula sed paeninsula. Hispania et Italia quoque non sunt insulae sed paeninsulae. Graecia et Hispania et Italia sunt paeninsulae in Europa antiqua. Britannia erat terra Barbara. Graecia non erat barbara, Italia quoque non erat barbara, Roma est in Italia. Roma est antiqua. Hodie Roma est magna et clara et pulchra. Roma erat magna et clara et pulchra. Graecia et Hispania et Gallia et Britannia erant provinciae Romae. Romani in Italia habitabant. Romani in terra antiqua et clara et pulchra habitabant, incolae multae erant agricolae et nautae. Incolae patriam amant et bene laborant. Incolae linguam Latinam recitabant. Nunc linguam Latinam recitamus. Linguam Latinam amamus et semper laudabimus.

VOCABULA

Paeninsula,ae(f) 1 مج 1 شبة جزيرة ,
Laboro,are 1 مج 1 يعمل
Provincial,ae (f) 1 مج 1 ولاية , اقليم ,
Recito,are 1 مج 1 يسرد , يتحدث

Equus Britannicus

Romani fabulam miram de Britannia narrant. Claudius, vir Romanus, in Britannia iter facit. Fatigatus est et sedere vult. Tandem tabernam videt; intrat et sedet. Caupo statim surgit et vinum ad Claudium portat. Claudius contentus vinum bibit. Subito per ianuam tabernae equus intrat, ad cauponem ambulat, vinum rogat. Claudius attonitus spectat dum caupo vinum equo dat. Equus vinum bibit, surgit, ex taberna lente ambulat. Claudius statim ad cauponem currit. “Oculi” inquit, “certe me fallunt. Equi tabernam intrare non debent. Equi dicere non possunt nec vinum bibere possunt. Multa mira in Britannia sunt sed id super omnia est mirum”. Caupo “Mirum certe est” respondet Claudio. “Hodie equus vinum album bibit ; semper rubrum bibere solet”.

VOCABULA

Mirus,a,um 1	عجيب , مذهش , مج	Vir,I (m) 2	رجل , مج
Iter,iteris (n) 3	رحلة , طريق , مج	Facio,facere 3	يعمل , يفعل,مج

VOCABULA

Fatigatus,a,um 1 مج , مرهق , متعب	Sedeo, ere 2 مج , يجلس
Vult, volo,velle (شاذ) , يبغي , يريد	Taberna,ae (f) 1 مج , خيمة , كوخ
Intro, are 1 مج , يدخل	Caupo, cauponis (m) 3 صاحب متجر
Statim (ظرف) , فى الحال , فوراً	Surgo, ere 3 مج , ينفجر , يقفز
Vinum,I (n) 2 مج , خمر , نبيذ	Contentus,a,um 1 مج , قانع ب , سعيد
Bibo,ere 3 مج , يشرب	Ianua, ae (f) 1 مج , مدخل , باب
Ambulo, are 1 مج , يمشى , يسير	Rogo, are 1 مج , يسأل , يطلب
Attonitus,a,um 1 مج , مندهش , منزعج	Specto,are 1 مج , يشاهد
Lente (ظرف) , ببطء , بتمهل	Curro, ere 3 مج , يجرى
Oculus,I (m) 2 مج , عين	Inquit , أقول , أكرر
Certe (ظرف) , بالتأكيد	Fallo, ere 3 مج , يخذع , يغش
Debeo,ere 2 مج , يجب على	Dico,ere 3 مج , يتكلم , يقول
Possum,pose,potui يستطيع , يقدر	Omnis,e 2 مج , كل , جميع
Respondeo,ere 3 مج , يجيب	Albus,a,um 1 مج , أبيض
Rubus,a,um 1 مج , أحمر	Soleo,ere (شاذ) 2 مج , يتعود

Equus Ligneus

Ubi Troiani ad oram maritimam mane oculos vertunt, neque naves neque tabernacula hostium vident. Inde magno gaudio clamant omnes : “Ex Asia discesserunt Graeci ; periculo et morte nos Iuppiter liberavit et auxilio divino servavit”. Tum magna Troianorum turba ex oppido currit et laeti loci notam spectant. “Hic Achilles”, clamant, “tabernaculum habebat; hic Agamemnonis castra orant”. Ubi equum ligneum viderunt, stupebant Troiani et magnopere timebant; tum forte Sinonem in silva invenerunt. De equo multa rogaverunt : Graecus mendax falso respondit : “Equum deis donum Graeci hic reliquerunt : ab maris periculis eos servat. Non iam ego Graecos amo sed vobis nunc socius ero; itaque vos iubeo equum in oppidum vestrum trahere et sic nautas Graecos in supplicium et mortem tradere”. Laocoon, Troianorum sacerdos, verba Sinonis culpabat : “Graecorum”, inquit, “omnia dona timeo : non discesserunt hostes sed per fallaciam nos

oppugnant”. Tum Minerva serpentem ingentem trans mare misit et sacerdotem occidit. Mors sacerdotis Troianos magnopere terruit : “Equus ligneus”, clamaverunt, “sacer est neque falsa erant Sinonis verba”. Itaque equum in oppidum trahere constituerunt.

VOCABULA

Maritimus,a,um 1 مج , بحرى	Mane (ظرف) فى الصباح, صباحا,
Oculus,I(m) 2 مج , عين	Verto,ere 3 مج , يحوّل , يغير,
Tabernaculum,I (n) 2 مج , خيمة, كوخ,	discedo,discessi,ere 3 مج , يرحل ,
Mors,tis (f) 3 مج , وفاة , موت	Libero, are 1 مج , يحرر , يطلق سراح
Laetus,a,um 1 مج , سعيد	Oro,are 1 مج , يتوسل , يتضرع
Stupeo,ere 2 مج , يندهش	Magnopere, (ظرف) كثيرا جدا
Mendax,acis 2 مج , كاذب	Mare,maris (n) 3 مج , بحر
Servo,are 1 مج , يحافظ على, يصون,	Supplicium,I (n) 2 مج , عقاب
Trado,ere 3 مج , يأتّمّن , يدع , يسلم,	Laocoon,is (m) 3 مج , لاکوون
Sacerdos,otis(m,f) 3 مج , كاهن	Culpo,are 1 مج , يؤنب , يلوم
Fallacia,ae (f) 1 مج , خداع , حيلة, كذبة,	Specto,are 1 مج , يرى
Falsus,a,um 1 مج , زائف	Constituo,ere,titui 3 مج , يقرر

Ludus Romanus

Ludus Romanus est parvus quia sunt pauci discipuli et unus magister. Magister est Orbilius, vir severus. Pulpitum et baculum habet. Pulpitum est parvum et baculum est longum. Pulpitum non est magnum sed parvum; baculum non est breve sed longum. Saepe ludus est in villa. Discipuli ad ludum mane ambulant, discipuli libros non portant sed servus eos portat ad ianuam ludi. Discipuli ante magistrum sedent, primum discipuli libros et ceras et stilos parant. Deinde fabulas poetarum Orbilius discipulis recitat, et discipuli fabulas Orbilio recitant. Bonos discipulos laudat, sed ignavos culpat Orbilius. Orbilius in ludo discipulos multos docet. Orbilius non est in ludo. Unus discipulus, nomine Marcus, ad ludum ambulat, ianuam aperit, per ianuam intrat, ianuam claudit et ad pulpitum ambulat. Marcus non bonus sed malus discipulus est. Murem parvum in manu habet. Pulpitum aperit, murem in pulpit ponit,

et iterum sedet. Orbilius intrat, et dicit : “Hodie fabula est de Prometheo. Fabula est longa et bona. Prometheus est ...”. Tum pulpitum aperit et manum in pulpito ponit. Mus manum rapit. Orbilius clamat et murem rapit sed mus e pulpito ad Marcum currit. Orbilius baculum longum capit. Orbilius ad Marcum ambulat ; Marcus tristis est.

VOCABULA

Ludus,i (m) 2	صغير , ضئيل , مج 1	Parvus,a,um 1	لعبة, مدرسة, مشهد, مج 2
Paucus,I (m) 2	تلميذ , طالب , مج 2	Discipulus,I (m) 2	قليل , مج 2
Magister,ri(m) 2	أوربيليوس , مج 2	Orbilius,I (m) 2	مدرس , مج 2
Severus,a,um 1	لوحة اعلانات, سبورة, 1	Pulpitum,I (n) 1	قاسى , صارم , مج 1
Baculum,I (n) 2	قصير , صغير , مج 2	Brevis,e 2	عصا , هراوة , مج 2
Mane (ظرف)	كتاب , مج 2	Liber,libri (m) 2	فى الصباح , صباحا , (ظرف)
Porto,are 1	عبد , مج 2	Servus,I (m) 2	يحمل , مج 1
Cera,ae (f) 1	وتد من سياج يكتب به, 2	Stilus,I (m) 2	شمع , مج 1
Deinde (ظرف)	يتكلم , يتحدث , مج 1	Recito,are 1	بعد ذلك , ثم , (ظرف)
Ignavus,a,um	يلوم , يوبخ , يتهم , مج 1	Culpo,are 1	نذل, جبان, خسيس ,
Doceo,ere 2	اسم , مج 3	Nomen,inis (n) 3	يعلم , يدرس , مج 2
Ambulo,are 1	مدخل , باب , مج 1	Ianua,ae (f) 1	يسير , يتمشى , مج 1
Intro,are 1	يقفل , يغلق , مج 3	Claudo,ere 3	يدخل , مج 1

VOCABULA

Mus,muris (m,f) 3 مج , فأرة, فأرة	Manus,us (f) 4 مج , يد
Pono,ere 3 مج , يضع	Sedeo,ere 2 مج , يجلس
Iterum (ظرف) , مرة ثانية	Dico,ere 3 مج , يقول
Promethus, I (m) 2 مج , بروميثيوس	Rapio,ere 3 مج , يمسك, يخطف, ياخذ
Clamo,are 1 مج , ينادى , يصيح	Curro, ere 3 مج , يجرى
Capio, ere (مختلط) , يحصل على	Tristis,e 2 مج , حزين

Ulixes et Cyclops

Erant olim in Sicilia gigantes quidem qui Cyclopes vocabantur, e quibus unus, Polyphemus nomine, in magna speluna cum ovibus suis habitabat. Eo Ulixes cum comitibus venit : Polyphemus tum forte oves in monte pascebat. qui cum domum revertisset oves in speluncam duxit magnumque saxum ad os speluncae posuit. Ulixem cum vidisset, multa rogavit : respondit ille, “Graeci sumus, qui trans mare ad hanc insulam navigavimus : si deos times, nos adiuvas : nam di eos qui advenas auxilium patentes neglegunt maximis suppliciis punier solent”. “Deos”, respondit Polyphemus, “Cyclopes non timemus : ipsi enim fortiores eis sumus”. Tum duos e comitibus Ulixis manu corripuit : quorum cum capita saxo elisisset membra dilaniata voravit.

VOCABULA

Gigas,antis(m) 3 عملاق , مج	Quidem (ظرف) , حقا
Cyclopes,um(m) 3 كيكلوبس , مج	Voco,are 1 يدعى , يسمى , مج 1

VOCABULA

Nomen,minis(n) 3 مج , اسم	Spelunca,ae(f) 1 مج , كهف
Ovis,is (f) 3 مج , غنم , شاة	Comes,mitis(m,f) 1 مج , صاحب , رفيق
Mons,ntis (m) 3 مج , جبل	Pasco,ere 3 مج , يطعم
Reverto,ere 3 مج , يعود , يرجع	Duco,ere,duxi 3 مج , يرشد , يعتبر
Saxum,I (n) 2 مج , صخرة , حجر	Pono,ere,posui 3 مج , يضع
Rogo,ere 1 مج , يسأل , يطلب , يرجو	Timeo,ere 2 مج , يخاف , يخشى
Adiuvo,are يقدم المساعدة الى , يساعد	Advena,ae (m) 1 مج , اجنبي , غريب
Patiens,entis(ad) صبور , هادي , ساكن	Neglego,ere,lexi , اهمل , اتغاضى عن
Supplicium,ii(n) 2 , عقوبة , قصاص , الم	Punio,ire 4 مج , يعاقب
Soleo,ere (لازم) 2 مج , يتعود	Enim (حرف ربط) لان , أدان
Fortis,e (صفة) , شجاع	Corripio,ere, ripui , يستولى بقوة على
Caput,capitis(n) 3 مج , رأس , عاصمة	Elido,ere,elisi 3 مج , يقرع , يرتطم ب
Membrum,i (N) 2 مج , عضو من الجسد	Dilanio,are 1 مج , يمزق , يثقب ثقبا
Voro,are 1 مج , ياكل بشراهة	

Promethus

Multae fabulae sunt de primis hominibus : Graeci et Romani fabulam sic narrant : Prometheus, Titanus, homines primos e luto et aqua facit. Sed homines primi vitam non habent ; sunt membra et corpora sine vita. Tandem vitam a Prometheo accipiunt. homines iam vivunt. Sed homines primi miseri et tristes sunt quia ignem non habent. quia ignem non habent, omnes utiles artes ignorant. Quia artes omnes ignorant, male vivunt. In cavernis habitant quia villas non habent. Bacas edunt quia cibum non habent. Iuppiter solus ignem habet; Prometheus igitur ab Iove ignem petit sed Iuppiter ignem non dat. Prometheus igitur ignem e sole rapit et ad terram portat. Homines iam ignem accipiunt et brevi tempore artes omnes habent. Sed Iuppiter iratus est et Prometheum crudeliter punit. Iuppiter Prometheum ad montem Caucasum vinculis adfigit ; vultur corpus Promethei semper mordet.

VOCABULA

Primus,a,um	, الاول	Homo,inis(m)	3 انسان, مج
Titanus,I (m)	2 عملاق, مج	Lutum,I (n)	2 تراب, طين, مج
Corpus,oris (n)	3 جسم, جسد, مج	Sine	(حرف جر) بدون
Accipio,ire	(مختلط) يقبل, يتسلم, يتلقى,	Vivo,ere	3 يعيش, مج
Ignis,is(m)	3 نار, مج	Utilis,e	2 مفيد, نافع, مج
Ars,artis(f)	3 فن, مهارة, مج	Ignoro,are	1 يجهل, مج
Caverna,ae (f)	1 كهف, مج	Baca,ae (f)	1 زيتون, شعير, مج
Edo,ere	3 ياكل, مج	Cibus,I (m)	2 طعام, مج
Solus,a,um	وحيد, مفرد, فقط,	Igitur	(ظرف) على ذلك
Peto,ere	3 يبحث عن, يطلب, مج	Sol.is (m)	3 شمس, مج
Crudeliter	(ظرف) بقسوة,	Caucasus,I (m)	2 القوقاز, مج
Vinculum,I (n)	2 اغلال, مج	Adfigo,ere	3 يثبت, مج
Vultur, uris(m)	3 نسر, مج	Mordeo,ere	2 يعض, يمزق, ياكل, مج

In Africa

Sic Aeneas, ubi Hectoris promissa audivit, Troiam reliquit. Inde diu multa per maria classe navigabat, multas per terras errabat, sed per omnia pericula semper Italiam petebat, ubi Iuppiter novam urbem ei promisit. Tandem navibus ad Italiam appropinquabat. Nox erat : caelo sereno ventoque secundo Troiani navigabant. Iamque Aurora stellas fugabat, ubi repente luce obscura colles humiles viderunt. Italia erat. "Italiam" omnes socii clamant, Italiam omnes laeto clamore salutant. Sed dea Iuno, quae semper erat Troianis inimica, pericula nova eis parabat. Tempestatem magnam excitavit : iactant undae magnae classem Troianorum, magnus aquae mons in naves descendit. Multas naves delevit tempestas : ipse Aeneas cum navibus reliquis ad oram Africae venit. Sed, quod vir pietate insignis erat, Iovis promissa semper in animo tenebat : itaque non diu in Africa mansit sed iterum Italiam petivit.

VOCABULA

Aeneas,ae (m) 1 اينياس , مج

Hector,oris(m) 3 هيكتور , مج

Promissum,I (n) 2	وعد , مج	Relinquo,uere,qui 3	يتزل, يهجر, مج
Inde (ظرف)	, بعدئذ (ظرف)	Diu (ظرف)	, لمدة طويلة (ظرف)
Mare,ris (n) 3	بحر , مج	Classis,is (f) 3	أسطول , مج
Erro,are 1	يتجول , مج	Omnis,e 2	كل , جميع , مج
Periculum,I (n) 2	خطر , مج	Peto, ere 3	يبحث على, يطلب, يسأل,مج
Novus,a,um 1	جديد , مج	Urbis,is (f) 3	مدينة , مج
Promitto,ere,misi, 3	يقدم وعد, يعد,مج	Navis,is (f) 3	سفينة , مج
Appropinquo,are 1	يقترّب , مج	Nox,noctis (f) 3	ليل , مج
Caelum,I (n) 2	سماء , مج	Sernus,a,um 1	صافى, عادل, سعيد,مج
Ventus,I (m) 2	ريح , مج	Secundus,a,um 1	مناسب, مج
Iamque (ظرف)	والآن , (ظرف)	Aurora,ae (f) 1	فجر , سحر , مج
Stella,ae (f) 1	نجمة , مج	Fugo,are 1	يطرد, يبعد,ينفى , مج
Repente(ظرف)	فجأة, على نحو مفاجى,(ظرف)	Lux,lucis (f) 3	ضوء , مج
Obscurus,a,um 1	غامض,خافت, مج	Collis,is (m) 3	تل , مج
Humilis,e 2	منخفض , وضعى, مج	Socius,ii (m) 2	حليف , مج
Clamo,are 1	يصيح, يصرخ, مج	Laetus,a,um 1	مسرور, فرح , سعيد,مج
Clamor,oris (m) 3	صياح , ضجة,مج	Saluto,are 1	يحيى , يرحب , مج
Iuno,onis,(f) 3	جونو , مج	Inimicus,a,um 1	عدو , مج
Tempestat,atis(f) 3	عاصفة , مج	Excito,are 1	يثير , يوقظ, يحس , مج
Iacto,are 1	يقذف , مج	Descendo,ere 3	ينزل , ياتى من اعلى,م
Deleo,ere 2	يدمر , مج	Reliquus,a,um 1	البقية , مج
Pietas,tatis (f) 3	تقوى , مج	Insigne,is (n) 3	معروف , علامة مميزة,م
Teneo,ere 2	يحتفظ ب , يمسك , مج	Iterum (ظرف)	مرة اخرى,ثانية, من جديد,(ظرف)

Ira Achilles

Ubi Graeci Troiam obsidebant, Achilles magna virtute contra Troianos pugnavit ; agros latos vastabat, multa oppida expugnavit. Agamemnon rex Graecarum erat copiarum imperator. Magna erat rixa inter regem et Achillem. Ardebat ira animum Achillis propter minas et contumelias Agamemnonis : itaque ad tabernaculum discessit nec iam pro Graecis pugnavit. Tum ubique Troiani superaverunt : magnum erat periculum Graecorum. Tandem rex legatos ad Achillem misit : munera portabant, multa frustra promiserunt. Achillis animum nec muneribus nec promissis movebant. Patroclus tamen amicus arma Achillis sumit et contra Troianos pugnavit. Hector, Priami regis Troiani filius, Patroclum necavit. Magnus erat dolor, magna ira Achillis, ubi Graeci mortem Patrocli nuntiaverunt. Iterum arma sumit, Troianos fugat, Hectorem necat. Tum Hectoris corpus ter cotidie circum tumulum amici traxit. Tandem Priamus tabernaculum Achillis intravit.

Multis cum lacrimis corpus filii petivit. Moverunt
Achillem senis lacrimae et corpus Hectoris reddidit.

VOCABULA

Troia,ae (f) 1 مج , طروادة	Obsideo,ere,obsidi 2 مج , يحاصر
Achilles,is(m) 3 مج , اخيل	virtus,tutis (f) 3 مج , شجاعة
Vasto,are 1 مج , يدمر	Expugno,are 1 مج , يستولى على
Agamemnon,onis(m) 3 مج , اجاممنون	Imperator,oris(m) 1 مج , قائد عام,امبراطور
Rixa,ae 1 مج , نزاع, شجار	Ardeo,ere 1 مج , يشعل
Animus,I (m) 2 مج , نفس, روح, عقل	Mina,ae (f) 1 مج , تهديد
Contumelia,ae (f) 1 مج , اهانة	Tabernaculum,I (n) 2 مج , خيمة
Discedo,ere,cessi 3 مج , يدخل	Ubique (ظرف) , في كل مكان , حيثما
Periculum,I (n) 2 مج , خطر	Legatus,I (m) 2 مج , رسول,ضابط
Mitto,ere,misi 3 مج , يرسل	Munus,neris(n) 3 مج , منصب, وظيفة
Frustra (ظرف) , دون جدوى	Promitto,ere,misi 3 مج , يوعد
Moveo,ere 2 مج , يحرك, يثير	Sumo,ere,sumpsi 3 مج , ياخذ
Neco,are 1 مج , يقتل	Nuntio,iare 1 مج , يعلن , يلمع الى
Fugo,are 1 مج , يطارده, يصد	Corpus,oris (n) 3 مج , جسم , جسد
Ter (ظرف) , ثلاث	Cotidie (ظرف) , كل يوم , يوميا
Tumulus,I (m) 2 مج , قبر	Traho,ere,traxi 3 مج , يسحب , يجر
Intro,are 1 مج , يدخل , يقحم	Lacrima,ae (f) 1 مج , دمعة
Senex,nis (m) 3 مج , شيخ , عجوز	Redo,ere,reddidi 3 مج , يعيد , يرد

Theseus et Minotaurus

Populus Graecus contra populum insulae Cretae multos annos bellum gesserat. Graeci magno cum animo diu contendebant, sed ab copiis Minois, regis Cretae, victi erant. Haec fuerat causa belli : filius Minois a Graecis interfectus erat. Itaque rex ob iniuriam illam ab eis poenam petebat. Septem puellas et septem pueros rogavit. Graeci erant miseri, sed eos miserunt. Minos, rex, Labyrinthum habebat. In Labyrintho animal barbarum, Minotaurum, tenebat. In Labyrinthum puellas puerosque duxit. In eo loco terrebantur quod contra Minotaurum sine armis pugnare non potuerant et mortem acceperunt. Interea Theseum fortuna misera puerorum puellarumque Graecorum incitatus est. Rogavit : “Estne nullum auxilium his filiis civium nostrorum ?.” Itaque ad Cretam cum sociis suis navi contendit. Ariadna, filia regis, eum vidit et ob virtutem eius amavit. Sine mora illa de Labyrintho eum docuit. Deinde Theseus solus ad Labyrinthum iit. Arma portabat et bonum consilium

Ariadnae memoria tenebat. Mox Minotaurum vidit. Cum eo animali diu pugnabat. Tandem id interficere potuit. Minotaurus necatus erat. Pueri puellae que liberati erant. Omnes annos postea populus Graecus laetus erat quod regi malo Cretae nullas poenas dabat.

VOCABULA

Gero,ere,gessi 3 مج (حربا), يشن	Contendo,ere 3 مج, يجاهد, يسعى
Copiae,arum (f) 1 مج قوات حربية, م	Mino,nonis (m) 3 مج مينو
Interfecio,ficere (مختلط) يقتل	Iniuria,ae(f) 1 مج ظلم, جور
Illa (f) ذلك, (اسم اشارة)	Poena,ae (f) 1 مج عقاب
Peto,ere 3 مج يطلب, يسال, يبحث عن	Rogo,are 1 مج يرجو, يطلب, يسال
Labyrinthus,I (m) 2 مج لايرينث	Minotaurus,I (m) 2 مج مينوتاور
Teneo,ere 2 مج يحتفظ ب, يمسك	Duceo,ere,duxi 3 مج يقود, يرشد
Terreo,ere 2 مج يخيف, يفزع, يرعب	Accipio,ire (مختلط) يستقبل
Interea (ظرف) في غضون ذلك	Theseus,I (m) 2 مج ثيسوس
Incito,are 1 مج يحث, يحض, يثير	Contendo,ere 3 مج يسرع, يناضل, يسير
Arianda (f) 1 مج اريديانى	Virtus,tutis (f) 3 مج شجاعة, فضيلة
Mora,ae (f) 1 مج تاخير	Doceo,ere,docui 2 مج يعلم
Consilium,I (n) 2 مج خطة, نصيحة, حيلة	Mox (ظرف) سرعان ما, حالا
Possum,porre,potui يستطيع, يقدر	Neco,are 1 مج يقتل
Libero,are 1 مج يحرر, يطلق سراح	Laetus,a,um 1 مج مسرور, فرح, سعيد
Malus,a,um 1 مج ردى, سئ	Do,are 1 مج يعطى

Feminae Sabinae

Amulius in Alba Longa non iam regnat. omnes incolae ad Romulum et Remum celeriter currunt et clamant :
“Quis iam est rex? Remusne regnat? Romulusne regnat?”
“Omnes dubitant quia Romulus et Remus gemini sunt. Itaque signum ex caelo expectant. Romulus et Remus ad duos colles lente ambulant, tum signum ex caelo expectant. Brevi tempore Remus aves sex videt sed Romulus duodecim videt. Itaque omnes salutant Romulum regem. Romulus urbem novam celeriter aedificat. Urbs nova est Roma. Roma nomen ex Romulo habet. Remus urbem novam deridet quia murum parvum habet. Remus trans murum saltat. Romulus Remum gladio crudeliter necat. Quia Romani uxores non habent, Romulus Sabinos ad spectaculum magnum invitat. Dum Sabini spectaculum spectant, Romulus filias Sabinas rapit, parentes fugat. Itaque Romani uxores habent. Brevi tempore feminae Sabinae in villa, in culina, in taberna bene laborant. Romam non relinquunt.

VOCABULA

Celeriter (ظرف) , بسرعة	Curro,ere 3 مج , يجرى
Dubito, are 1 مج , يشك , يتردد	Gemini,orum (m) 2 مج , توأمان
Exspecto,are 1 مج , ينتظر	Collis,is (m) 3 مج , تل
Lente (ظرف) , ببطأ	Ambulo, are 1 مج , يمشى, يتريض, يسير
Signum,I (n) 2 مج , اشارة , علامة	Avis,is (m) 3 مج , فأل , طائر
Sex (عدد غير معرب) , ستة	Duodecim اثنى عشر
Saluto,are 1 مج , يحيى	Aedifico,are 1 مج , يبني , يشيد
Derideo, ere 2 مج , يضحك	Salto,are 1 مج , يقفز
Crudeliter (ظرف) , بقسوة	Uxor,oris (f) 3 مج , زوجة
Sabini,orum(m) 2 مج , السابينيون	Spectaculum,I (n) 2 مج , مشهد, عرض
Invito,are 1 مج , يدعو, يرى	Specto,are 1 مج , ينظر الى
Rapio,ere (مختلط) , يخطف , يمسك	Parens,parentis(m) 3 مج , والد
Fugo,are 1 مج , يهرب , يفر	Culina,ae(f) 1 مج , مطبخ
Taberna,ae (f) 1 مج , كشك, كوخ, خيمة	Relinquo,ere,relinqui 3 , يترك, يغادر

Corvus Superbus

Hodie fabula est de corvo superbo. Fabula est longa et bona. Aesopus fabulam sic narrat. Olim corvus caseum in mensa, quae est prope fenestram villae, videt. Volat per fenestram, caseum rapit, tum ad arborem volat et caseum edit. Vulpes, quae caseum habere vult, venit ad arborem et prope eam sedet. "Is corvus" inquit, "pulcher est ; certe habet corpus pulchrum, oculos pulchros : pulchram vocem quoque debet habere. Sed fortasse cantare non potest". Corvus, qui est superbus, cantat. Statim caseus ad terram cadit ; vulpes eum rapit et edit.

VOCABULA

Corvus,i (m) 2	غراب , مج	Superbus,a,um1	متغطرس , مغرور, م
Aesopus,I (m) 2	ايسوبوس, مج	Caseus,I (m) 2	قطعة جبن, مج
Mensa,ae (f) 1	مائدة, منضدة, مج	Fenestra,ae (f) 1	نافذة مفتوحة, مج
Volo,are 1	يطير , مج	Rapio,ere (مختلط)	يخطف, يمسك,
Arbor,oris (f) 3	شجرة , مج	Edo,ere,edi 3	يأكل, يلتهم , مج
Vulpes,is (f) 3	ثعلب , مج	Vult (شاذ)	يريد, يرغب,
Sedeo,ere 2	يجلس , مج	Inquam,inquis,inqui	يقول,
Certe (ظرف)	بالتأكيد ,	Corpus,oris (n) 3	جسم , جسد , مج

VOCABULA

Oculus, I (m) 2	عين , مج	Vox, vocis (f) 3	صوت , مج
Debeo, ere 2	يجب على , مج	Fortasse (ظرف)	ربما , من الجائز ,
Possu, posse, potui 3	يستطيع , م, ش	Statim (ظرف)	فى الحال , حالا , فورا ,
Cado, ere 3	يقع , مج	Quoque (ظرف)	أيضا ,

Iuppiter et Ranae

Olim ranae, quae in lacu habitabant, sunt tristes quia semper rixas inter se habent. Itaque a Iove auxilium petunt. Volunt Iovem ad eas regem mittere qui concordiam eis dare potest. Iuppiter assentit et ad eas lignum parvum e caelo mittit. Id lignum, quod ad aquam cum magno sono cadit, primo ranas terret ; sed mox ranae id derident ; “Id” inquiunt, “non est rex”. Itaque alium regem a Iove petunt. Tum Iuppiter iratus draconem ad eas mittit qui eas devorat. Iterum auxilium a Iove petunt sed iam Iuppiter auxilium eis dare non vult. “Si non accipiunt fortunam bonam” inquit, “debent perferre fortunam malam”. Eo modo Aesopus dicit : Homines fortunam perferre debent : non debent fortunam turbare.

VOCABULA

Rana,ae (f) 1	ضفدعة , مج	Lacus,I (m) 2	بحيرة , مج
Rixa,ae (f) 1	خلاف , نزاع,مج	Peto,ere,tivi 3	يطلب , يبحث عن ,مج
Vollo.velle,volui 3	يريد,يرغب,م ش	Concordia,ae (f) 1	وفاق, وئام ,مج
Possum,porre,potui	يستطيع, يقدر ,	Assentio,ire 4	يتفق على , مج

VOCABULA

Lignum,I (n) 2 مج , خشب	Sonus,I (m) 2 مج , صوت
Cado,ere,cecid 3 مج , يسقط, يقع	Terreo,ere,terui 2 مج , يخيف,يفزع
Mox (ظرف) , حالاً, سرعان ما	Derideo,ere 2 مج , يهزأ ب,
Alius,a,ud (صفة مبهمه) , اخر	Iratus,a,um 1 مج ,حائق,ثائر,
Draco,conis(m) 3 مج , ثعبان	Devoro,are 1 مج , يبتلع ,
Iterum (ظرف) , مرة ثانية , مرة اخرى,	Vult (شاذ) , يريد , يرغب,
Accipio,ire (مختلط) , يقبل , يتسلم,	Debeo,ere 2 مج , يجب على
Perferre 3 مج , يحضر الى, يتحمل,	Modo (ظرف) , لكن , فقط
Dico,ere,dixi 3 مج , يقول , يتكلم ,	Turbo,are 1 مج , يزعج,مج 1

Patricii et Plebeii

Roma iam respublica est. Non reges sed duo consules cum senatoribus urbem administrant. Sed cives non sunt laeti quia in urbe sunt duae partes, patricii et plebeii. Plebeii “Patricii” inquit, “terras magnas, divitias magnas, villas magnas, servos multos habent. Plebeii strenue in urbe et in agris laborant sed miseri et tristes sunt quia nec divitias nec iura habent. Itaque iniurias multas ex patriciis accipiunt. “Plebeii irati non iam laborant sed ex urbe ad agros et colles migrant. In urbe patricii sunt territi. Urbs est in magno periculo quia multi hostes sunt prope Romam nec cibus est in tabernis et villis. Itaque patricii senatorem ad plebeios mittunt. Senator “Si”, inquit “in corpore humano membra omnia cum concordia laborant, corpus est sanum. Si membra inter se pugnant, corpus est aegrum. Sic in urbibus, si cives omnes, patricii et plebeii cum concordia laborant, urbes sunt sanae”. Patricii condiciones bonas offerunt ; plebeii ad urbem reveniunt. Plebeii iura et tribunos accipiunt ; tribuni plebeios contra patricos defendunt.

VOCABULA

Respublica (f) الجمهورية, الدولة	Senator,toris(m) 3 سناتور , مج
Administro,are 1 مج , يدير , يخدم	Civis,is(m,f) 3 مواطن , مواطنة, مج
Laetus,a,um 1 مسرور, فرح, سعيد, مج	Pars,parties(f) 3 جزء , مج
Plebeius,a,um 1 العامة , مج	Servus,I (m) 2 عبد , مج
Strenue (ظرف) , بعنف	Ius,iuris(n) 3 حق, قانون, امتياز, مج
Iniuria,ae(f) 1 مج , ظلم , خطأ	Accipio,are 1 يقبل , يتسلم , مج
Migro,are 1 مج , يهاجر , يرحل	Terro,ere,terui,territum 2 يخيف , يفزع, مج
Cibus,I (m) 2 مج , طعام	Mitto,ere,misi 3 يرسل , مج
Corpus,poris(n) 3 مج , جسم , جسد	Membrum,i(n) 2 مج , عضو
Concordia,ae (f) 1 وفاق, وئام, سلام, مج	Sanus,a,um 1 مج , صحى
Pugno,are 1 مج , يحارب , يقاتل	Aeger,gra,grum 1 مج , مريض, عليل
Condicio,cionis(f) 3 مج , شرط	Offero,rre , يهدى , يهب , يقدم
Revenio,ire 4 مج , يرجع , يعود	Tribunus,I (m) 1 مج , تريبون
Patricius,ii(m) 2 مج , عضو السناتور	Defendo,ere 3 مج , يحمى , يدافع عن



Horatius

Post Romulum, sex reges in urbe Roma regnant et bona faciunt. sed ultimus rex, Tarquinius Superbus, est vir malus et crudelis. Itaque Romani Tarquinium propter multas iniurias expellunt et duos consules creant. Lars Porsenna, Etruscus, in Etruria prope Romam regnat. Romani et Etrusci hostes sunt et Romani Etruscos timent. Itaque Tarquinius auxilium a Porsenna et Etruscis contra Romanos petit. Tarquinius Superbus ad urbem Romam cum Porsenna et multis militibus Etruscis revenit. Consul Romanus inquit, "Etrusci sunt prope Romam ; Romani sunt in periculo magno. Etrusci ad flumen Tiberem celeriter currunt". Trans Tiberem est pons. Iam Etrusci in ponte sunt ; iam trans pontem currunt. Tum Horatius, miles Romanus, et duo amici ex urbe ad pontem currunt et cum Etruscis fortiter pugnant. Ex collibus, ex villis, ex muris Romani omnes spectant et timent. Dum Horatius et amici pugnant, milites Romani pontem telis caedunt. Iam pons non stat.

Romani victoriam habent et Roma servatur quod aqua inter Romam et hostes stat. Tum Horatius in aquam saltat et ad Romanos natat. Itaque Tarquinius Superbus urbem Romam non intrat. Romani Horatium laudant et postea de virtute eius cantant.

VOCABULA

Faco,ere يعمل, يفعل, يؤدى, مختلط	Ultimus,a,um 1 مج , الاخر
Crudelis,e 2 مج , قاس , فظ	Propter (حرف جر), بسبب
Iniuria,ae(f) 1 مج , ظلم, خطأ	Expello,ere 3 مج , يطرد , يخرج
Creo,are 1 مج , ينتخب , يقدم	Etruscus,a,um تروسكى
Etruria,ae (f) اتروريا(فشمال غرب)	Hostis,is (m) 3 مج , عدو
Peto,ere 3 مج , يطلب , يبحث عن	Miles,litis (m)3 مج , محارب , جندى
Revenio,ire 4 مج , يعود	Periculum,I (n) 2 مج , خطر
Celeriter (ظرف) , بسرعة	Curro,ere 3 مج , يجرى
Pons,pontis(m) 3 مج , جسر , كوبرى	Fortiter (ظرف) , بشجاعة
Collis,is (m) 3 مج , تل	Murus,I (m) 2 مج , سور , حائط
Specto,are 1 مج , يرى , يشاهد	Telum,I (n) 2 مج , مزراق
Caedo, are 1 مج , يقتل , يذبح , يقطع	Sto,are 1 مج , يقف
Servo, ar 1 مج , يحافظ على, يخلص	Salto,are 1 مج , يثب , يرقص
Nato,are 1 مج , يسبح , يعوم , يتقلب	Intro,are 1 مج , يدخل , يلتحق بى
Postea (ظرف) , بعد ذلك	virtus,tutis(f) 3 مج , فضيلة , شجاعة



Mors Caesaris

Caesar cum in Italiam venisset senatum copias ubique vicit. Pompeius, qui ad Aegyptum navigaverat, Ptolemaei regis iussu occisus est. Eo securus Caesar in magnum periculum venit : nam ab exercitu, quem Ptolemaeus collegerat, repente oppugnatus natatione vitam servavit, manu interea tenens libros illos quos de bello scripserat. Postea tamen mira celeritate hostes omnes superavit : quas victorias his verbis nuntiavit, “Veni, vidi, vici”. Dictator creatus maximus cum clementia inimicis omnibus parcebat optimasque leges tulit. Priusquam tamen omnia in animo habebat peragere posset ab inimicis in Curia occisus est. Equitibus unus, M. Brutus nomine, olim inimicus, postea in amicitiam ab illo acceptus erat. Hunc ubi vidit, “Et tu, Brute” clamavit, nec diutius resistebat : multis vulneribus transfixus prope statuam Pompeii cecidit.

VOCABULA

Caesar,aris(m) 3 مج , قيصر	Cum (حرف ربط) , عندما
Venio,ire 4 مج , ياتي , يجي	Senatus,us(m) 4م مجلس الشيوخ(سناتو)

VOCABULA

Ubique (ظرف) , فى كل مكان,	Vinco,ere,vici 3 مج , يقهر,
Ptolemaeus,a,um 1 مج , بطلمى	Iussus,us(m) 4 مج , الامر
Occisus est(occido)3 مج , يقتل	Eo (ظرف) الى ذلك المكان, الى هناك,
Securus,a,um 1 مج , شجاع , مقدم,	Exercitus,us(M) 4 مج , جيش
Colligo,ere,college 3 مج , يجمع , يحشد,	Repente (ظرف) , فجأة
Natatio,onis(F) 3 مج , سباحة	Servo,are 1 مج , يخلص ,
Manus,us(f) 4 مج , يد	Interea (ظرف) , فى تلك الاثناء,
Tenens(tenere) (اسم فاعل) , ممسك	Liber,bri(m) 2 مج , كتاب
Scribo,ere,scripsi 3 مج , ينسخ,	Postea (ظرف) , بعد ذلك
Mirus,a,um 1 مج , غريب,	Celeritas,tatis(f) 3 مج , سرعة
Hostis,is(m) 3 مج , عدو	Verbum,I (n) 2 مج , كلمة , قول , فعل,
Nuntio,are 1 مج , يخبر,	Video,ere,vidi 2 مج , يشاهد , يبصر,
Vicus,I (m) 2 مج , قرية	Dictator,oris(m) 3 مج , ديكتاتور,
Creatus(creo,are) , منتخب , مخلوق,	Maximus,a,um 1 مج , اكبر , اعظم
Clementia,ae(f) 1 مج , رحمة , شفقة	Inimicus,I (m) 2 مج , عدو
Parco,ere 3 مج , يفر , يرحم	Optimus,a,um 1 مج , احسن
Lex,legis (f) , قانون	Fero,ferre,tuli على , يحتمل , يصبر
Perago,ere 3 مج , ينجز , يعانى , يقاسى	Curia,ae(f) مقاطعة
Eques,equitis(m) 3 مج , طبقة الفرسان	Amicitia,ae(f) 1 مج , صداقة
Accipio,ere,accepi يقبل , يتلقى , يتسلم	Diutius (ظرف افعال تفضيل) , لمدة طويلة
Resisto,ere 3 مج , يقاوم , يناهض	Vulnus,eris(n) 3 مج , جرح
transfigo,ere,fixi 3 مج , يكتمل , ينتهى	Cado,ere,cecidu 3 مج , يسقط , يقع

Daedalus et Icarus

Daedalus hominem necat et cum filio suo, Icaro, ex Graecia ad Cretam properat. Pater filiusque parva in insula diu manebant. Nunc ad Graeciam volare parant. Bene laborant et alas parant. Pater puerum monet; per caelum, sed non ad solem volabimus. Sol erat clarus. Icarus ob alas suas erat laetus. Consilium patris sui non diu memoria tenebat. Cum patre suo non manet, sed summon in caelo ante solem volat. Cera in alis pueri non manet. Pater filium suum medio in mari mox videbat. Icarus non servatur. Daedalus vero dolebat quod puer consilio patris non monebatur.

VOCABULA

Daedalus,I (M) 2 دايدالوس, مج	Homo,inis(m) 3 انسان , بشر , مج
Icarus,I (m) 2 ايكاروس , مج	Creta,ae(f) 1 جزيرة كريت , مج
Propero,are 1 يسرع , يهرع , مج	Pater,patris(m) 3 والد , اب , مج
Maneo,ere 2 يبقى , يمكث , يقيم,مج	Volo,are 1 يطير , مج
Paro,are 1 يعد ,يجهز , يستعد , مج	Ala,ae(f) 1 جناح , مج
Moneo,ere 2 ينصح , يحذر , مج	Caelum,I (n) 2 السماء , مج
Sol,solis(m) 3 شمس , مج	Clarus,a,um 1 واضح , شهير , مج

VOCABULA

Laetus,a,um 1 مسرور, فرح, سعيد, مج 1	Consilium,I (n)2 نصيحة, خطة, حيلة, مج 2
Memoria,ae(f) 1 تذكرة, تذكر, مج 1	Teneo,ere 2 يتمسك, يحتفظ ب, مج 2
Summus,a,um 1 الاعلى, مج 1	Cera,ae(f) 1 شمع, مج 1
Medius,a,um 1 وسط, متوسط, مج 1	Mare,maris(n) 3 بحر, مج 3
Mox (ظرف), سرعان ما, حالا, (ظرف)	Video,ere 2 يرى, يشاهد, يبصر, مج 2
Servo,are 1 ينجذ, يخلص, مج 1	Vero (ظرف), حقا, (ظرف)
Doleo,ere 2 يحزن, يتألم, يندم, يأسف, مج 2	Puer,pueri(m) 2 ولد, صبي, مج 2

Hannibal

Hannibal adolescens erat inimicus Romanis quod pater eos non amabat. In Africa habitabant, sed mox Hannibal cum suis trans mare in navibus multis ad Hispaniam navigavit. Ipse multas copias et classem bonam habebat. In Hispania multa oppida oppugnavit et praedam captivosque capit. Deinde ad Italiam viros suos duxit sed inter Hispaniam Italiamque erant montes. Hi montes pedites equitesque eius maxime impediabant. Multa impedimenta portabantur. Ad imperatorem Romanum nuntius portatus est. Romani contra hostes ierunt. In Italia Romam proelio hostes non vicerunt, sed ubi in Africa pugnaverunt ad victoriam ab imperatore suo ducti sunt.

VOCABULA

Hannibal, is(m) 3 مج , هانيبال	Adolescens, entis2 (صفة مج) شاب
Inimicus, I (m) 2 مج , عدو	Navis, is(f) 3 مج , سفينة
Classis, is(m) 3 مج , اسطول	Oppidum, I (n) 2 مج , مدينة , بلدة
Oppugno, are 1 مج , يهاجم	Praeda, ae(f) 1 مج , غنيمة
Captivus, a, um 1 مج , اسير , سجين	Capio, ire 4 مج , ينتقى , ياخذ

VOCABULA

Deinde (ظرف), ثم , بعد ذلك	Duco,ere,duxi 3	يقود, يرشد, مج 3	
Mons,ntis(m) 3	جبل , مج 3	Pedes,ditis(m) 3	جندى مشاة , مج 3
Eques,uitis(m) 3	فارس , خيال , مج 3	Impedio,ire 4	يعرقل, يعيق, يعطل, مج 4
Impedimenta,orum(n,p)2	امتنعة , مج 2	Porto,are 1	يحمل , مج 1
Imperator,oris(m) 3	امبراطور, قائد عام, م 3	Nuntius,I (m) 2	رسالة , رسول, مج 2
Ineo,ire,ii 4	يدخل , يبدأ , ينضم , مج 4	Proelium,ii 2	معركة , قتال , مج 2
Vinco,ere,vici 3	يهزم, ينتصر على , مج 3	Duco,ere,duxi,ductum,	يقود, يرشد, مج 3

The founding of Roma

Procae, regi Alabae, duo filii Numitor atque Amulius erant. Numitori, qui Natu maximus erat, pater regnum vetustum gentis legat. Plus tamen vis potuit quam voluntas patris; pulso fratre Amulius regnat. Addit sceleri scelus; fratris filios interemit, filiam Ream Silviam vestalem legit. Quae quum filios geminos edidisset, ipse vincta in custodiam datur, pueros Amulius in fluentem aquam mitti jubet. Forte quadam Tiberis super ripas effuses erat, nec ad ipsum flumen usquam adiri poterat. Itaque ii qui infantes ferebant, velut defuncti Regis imperio, in proxima alluvie pueros exponent. Vastae tum in his locis solitudines erant. Fama est, quum aqua fluitantem alveum, quo expositi erant pueri, in sicco destituisset, lupam sitientem ex montibus ad puerilem vagitum cursum flexisse. Eam mammas infantibus praebentem a magistro regii pecoris inventam esse. Huic Faustulo nomen fuisse ferunt, ab eo larentiae uxori educandos

datos esse. Ita geniti educati quum primum adoleverunt venando peragrabant saltus. Hinc robore corporibus animisque sumpto, in latrones praeda onustos impetus faciebant pastoribusque rapta dividebant. Tum latrones, ob iram praedae amissae, Remum ex insidiis ceperunt, captum regi Amulio tradiderunt, dicentes impetus in Numitoris agros a fratribus fieri. Itaque Numitori ad supplicium Remus deditur. Jam ab initio Faustulo spes fuerat regiam stirpem apud se educari, nam et expositos esse jussu Regis infantes sciebat, et tempus, quo ipse eos sustulisset, ad id ipsum congruere; sed rem nisi per necessitatem aperire noluerat. Jam metu subactus Romulo rem aperit. Forte et Numitori, guum in custodia Remum haberet, audivissetque geminos esse frateres. Memoria nepotum animum tetigerat, et haud procul erat quin Remum agnosceret. Ita Amulio undique dolus nectitur. Romulus cum pastoribus in regem impetum facit, et a domo Numitoris alia

comparata manu adjuvat Remus. Ita regem obtruncant. Numitor, postquam juvenes perpetrata caede, gratulantes ad se pergere vidit, extemplo advocato concilio, scelera fratris, originem nepotum, caedem tyranni ostendit. Quum juvenes, per mediam contionem ingressi, avum regem salutassent, vox ex omni multitudine consentiens Numitori imperium defert. Ita re Albana Numitori permissa, Romulum Remumque cepit cupido urbis condendae in his locis ubi expositi erant. Ad id magnus Albanorum Latinorumque numerus pastores quoque accesserant. Sed regni cupidine foedum certamen inter fratres coortum est. Quoniam gemini erant, nec aetate discrimen facere poterant, rem augurus discernere constituunt. Palatium Romulus Remus Aventinum montem cepit. Priori Remo augurium venisse fertur sex volucres. Jamque nuntiato augurio duplex numerus Romulo sese ostendit. Ita utrumque sua multitudine regem salutat. Inde cum altercatione congressi, ad

caedem vertuntur. Ibi Remus in turba ictus cecidit, vulgatioꝛ fama est Remum ludibꝛio fratꝛis novos transiluisse muros; inde ab irato Romulo interfectum esse. Ita solus Romulus imperio potitus, condita urbes conditoꝛis nomine appellate est.

The rape of the Sabine women

Jam res Romana adeo valida erat ut cuilibet finitimarum civitatum bello par esset, sed penuria erat mulierum, quod Romanis conubia cum finitimis non erant. Tum ex consilio partum Romulus legatos circa vicinas gentes misit, qui societatem conubiumque novo populo peterent. Nusquam benigne legatio audita est. Romani id aegre passi, ad vim spectabant. Romulus autem, iram dissimulans, ludos solemnes Neptuno parat. Indici inde finitimis spectaculum jubet. Multi mortales studio novae urbis videndae convenerant, et Sabinorum omnis multitudo cum liberis ac conjugibus adfuere. Ubi spectaculi tempus venit et mentes omnium cum oculis huic deditae erant, tum signo dato juvenus Romana ad rapiendas virgines discurrit. Turbato per metum ludicro, maesti parentes virginum profugiunt, deum invocantes, cujus ad ludos decepti venissent. Nec raptis indignatio est minor. Sed Romulus ipse circumibat, docebatque superbia partum

id foctum esse, qui conubium finitimis negassent; mollirent modo iras, et iis animos darent quibus fors corpora dedisset. Jam admodum mitigati animi raptis erant; at raptarum parentes, lacrimis et querelis civitates concitabant, bellumque a Sabinis ortum est. Conserto proelio Sabinae mulieres, quarum ex injuria bellum ortum erat, crinibus passis scissaque veste ausae sunt se inter tela volantia inferre, et infestas acies dirimere, hinc patres, hinc viros orantes ne soceri generique se nefando sanguine respergerent. Movet res guum multitudinem tum duces. Silentium et repentina fit quies; inde ad foedus faciendum duces prodeunt, nec pacem modo sed civitatem unam ex duabus faciunt, regnum consociant, imperium omne Romam conferunt.

The Horatii and the Curiatii

Tullo Hostilio rege bellum inter Romanos Albanos que coortum est. Forte: in duobus tum exercitibus erant trigemini fraters, nec aetate nec viribus dispares. Horatios Curiatiosque fuisse constat, incertum tamen est utrius populi Horatii, utrius Curiatii fuerint. Plures tamen sunt qui Romanos Horatios vocent. Cum trigeminis agunt reges ut pro sua quisque patria ferro dimicent: ibi imperium fore ubi victoria fuerit. Nihil excusatur; tempus et locus convenit. Priusquam dimicarent foedus ictum est inter Romanos et Albanos ut, cujus populi cives eo certamine vicissent, is alteri populo cum bona pace imperitaret. Foedere icto trigemini arma capiunt. Duo exercitus utrimque pro castris consederant. Datur signum, infestisque armis terni juvenes concurrunt. Consertis deinde manibus, duo Romani, vulneratis tribus Albanis, interfecti sunt. Ad quorum casum conclamavit gaudio Albanus exercitus, Romanas legions jam spes tota deseruerat. Is

tamen qui ex Romanis superfuit forte integer erat; ergo ut segregaret hostium pugnam, capessit fugam, eos ita secuturos ratus ut quemque vulnera sinerent. Jam aliquantum spatii ex eo loco ubi pugnatum est aufugerat, quum respiciens videt magnis intervallis sequentes, unum haud procul ab sese abesse. In eum magno impetus rediit; et dum Albanus exercitus inclamat curiatis ut opem ferant fratri, jam Horatius caeso hoste victor secundam pugnam petebat. Tunc clamore Romani militem suum adjuvant, et ille defungi proelio festinat. Prius itaque quam alter, qui nec procul aberat, consequi posset, et alterum Curiatium conficit. Jamque aequato Marte singuli supererant, sed nec spe nec viribus pares. Alter ferro intactus et geminata victoria ferox in certamen tertium ibat, alter vulnere ac cursu fessus, fratrumque ante se strage victus, hosti victori objicitur. Nec illud proelium fuit. Romanus exultans, duos, inquit, fratrum manibus dedi, tertium ut Romanus Albano imperet dabo. Arma

male sustinenti gladium jugulo defigit, jacentem spoliat. Romani ovantes ac gratulantes Horatium accipiunt eo majore cum gaudio quo prope metum res fuerat. Sepulcra extant quo quisque loco accidit, duo Romana uno loco propius Albam, tria Albana Romam versus, sed distantia locis ut et pugnatum est.

How Horatius defended the bridge

Jam Tarquinius ad Lartem Porsenam, Clusinum regem, perfugerant, orabantque ne se in exilio vivere pateretur. Porsena igitur Romam infesto exercitu venit. Quum hostes adessent, omnes in urbem ex agris demigraverunt, urbem ipsam praesidiis firmaverunt. Pons sublicius iter paene hostibus dedit; sed unus vir Horatius Cocles, qui forte in statione pontis positus erat, quum Janiculum repentino impetu captum vidisset, trepidamque suorum turbam arma ordinesque relinquere, admonuit ut pontem ferro atque igni intesrumperet. Promisit se, quantum vir unus posset. Hostes sustenturum esse. Vadit inde ad primum aditum pontis; duos tamen ex Romanis pudor cum eo tenuit, SP. Lartium ac T. Herminium. Cum his primam periculi procellam parumper sustinuit. Deinde eos quoque ipsos, exigua parte pontis relicta, in tutum cedere coegit. Circumferens inde oculos ad procures Etruscorum, nunc singulos provocabat, nunc omnes

increpabat. Aliquamdiu cunctati sunt dum alius alium circumspectat ut proelium incipiat. Pudor deinde commovit aciem, et clamore sublato undique in unum hostem tela conjiciunt. Quae quum in objecto scuto cuncta haesissent, neque minus obstinatus ille pontem obtineret, jam impetus facto virum detrudere conabantur, quum simul fragor rupti pontis, simul clamor Romanorum pavore subito impetum sustinuit. Tum Cocles, Tiberine pater, inquit, te precor ut haec arma et hunc militem propitio flumine accipias. Inde armatus in Tiberim desiluit, multisque superincidentibus telis incolumis ad suos tranavit. Grata erga tantam virtutem civitas fuit; statua Horatii in Comitio posita, agri quanti uno die circumarare potuit datum est.

Cleopatra

Alexandria est in Africa. Alexandria est antiqua et clara et pulchra. Cleopatra est regina Alexandriae. Cleopatra est pulchra et clara. Cleopatra philosophiam et historiam et geographiam et litteras bene amat. Itaque incolae Cleopatram et patriam bene amant. Ancillae statuas Cleopatrae rosis ornant. Poetae Cleopatram laudant et fabulas multas et bonas de Cleopatra narrant. Incolae Alexandriae sunt agricolae et nautae. Incolae bene laborant. Dum laborant cantant. In Alexandria sunt viae longae et pulchrae. In Alexandria sunt statuae clarae et pulchrae. In Alexandria sunt scholae multae et clarae. Universitas Alexandriae est antiqua et clara et magna. Caesar et nautae ad Alexandriam navigant. Sed Caesar et Cleopatra non pugnant quod Caesar Cleopatram amat. Antonius quoque Cleopatram bene amat. Sed Augustus Cleopatram non amat. Augustus et Cleopatra pugnant.

Octavius et Cleopatra

Post mortem caesaris tres viri rempublicam administrabant, Octavius, Antonius et Lepidus. Hi exercitum magnum in Graeciam transduxerunt, Brutum et Cassium Philippum vicerunt. Quorum uterque se interfecit. Post hoc proelium omnes provinciae triumvis divisae sunt. Octaviano Italia, Gallia, Hispania, Lepido Africa. Antonio oriens totus datus est. Hic annos aliquot in Aegypto egit, quod illius terrae reginam, Cleopatram, maxime amabat. Sed dissensio inter Octavianum et Antonium facta est; uterque igitur magnas copias terra marique paravit. Tandem proelium navale, quo nihil unquam atrocium fuit, prope litus Graecum ad Actium factum est. Antonio erat classis maxima ex omnibus Asiae gentibus parata; in classe erant praeterea naves plurimae quae Cleopatra ipsa ducebat. Huius classis naves omnes maximae erant, Octaviani autem minores, sed celeriores. Diu et acriter ab utrisque pugnatum est;

sed dum res adhuc in dubio est, subito naves Aegyptiae vela dare et evento idoneo e proelio fugere visae sunt. Antonius, qui fortissime adhuc pugnaverat, ubi mulierem sibi carissimam se relinquentem vidit, nautas suos reginam sequi iussit. Tum demum antoniani, a duce relictis, manus dedere. Post hanc victoriam Octavianus omnes provincias Romanas occupavit et primus imperator Romanus factus est.

Bellum Troianum

Hodie fabula est de bello Troiano. Fabula est longa et bona. Poetae fabulam sic narrant. Troia est in Asia. Troia est antiqua et clara. Magna est fama Troiae. Poetae fabulam Troianam sic narrant : Alexander ad Graeciam navigat. Helenam pulchram amat et ad Troiam in navicula portat. Statim Graeci ad Asiam navigant. Graeci Troiam diu obsident. Graeci et Troiani diu extra Troiam pugnant. Graeci multos Troianos hastis et sagittis vulnerant. Post multos annos Graeci equum ligneum fabricant. Equus cavus multos Graecos portat. Troiani equum ligneum vident et intra muros Troiae portant. Graeci tandem Troianos superant, victoriam habent et cum Helena in Graeciam navigant.

Rhea Silvia

Numitor in Alba Longa regnat. Amulius, vir malus, Numitorem ex Alba Longa expellit et in Alba Longa regnat. Numitor filiam habet. Filia, nomine Rhea Silvia, habet filium Romulum et filium Remum. Romulus et Remus sunt parvi infantes. Quia Amulius timet Romulum et Remum, infantes rapit, in alveo ponit et alveum in flumine Tiberi ponit. Infantes sunt in flumine. Sed aqua infantes in terra sicca relinquit. Tum infantes clamant. Lupa magna est prope flumen. Lupa videt infantes. Lupa ad infantes currit, sed bona est et infantes nutrit. Forte pastor bonus, nomine Faustulus, cum cane prope flumen ambulat. Faustulus ad Romulum et Remum currit et lupam fugat. Infantes ex alveo capit et infantes ad uxorem portat. Uxor est femina bona et infantes in villa nutrit. Iam Romulus et Remus sunt viri. Amulium tandem inveniunt et gladio necant.

Aegyptii

Inter alias fabulas Herodotus multa et mira de Aegyptiis narravit. Canes et feles praecipue amabant : ubi incendium in urbe erat, ubique in publicas vias veniebant, alia omnia neglegebant, feles solas custodiebant; si vel una felis in flammam saltaverat, magnus erat dolor Aegyptiorum; si domi felis vita excesserat, incolae domicilii propter dolorem supercilia radebant : canes autem propter mortem et caput et omne corpus radebant. In fluvio Nilo multi erant crocodili : crocodilos sic captabant Aegyptii. Carmen porcinam hamo infigebant et in fluvium illic ubi porci clamores audivit statim ad locum properabat, cermen cum hamo incaute vorabat. Tum in oram trahebant et necabant.

Agamemnon et Menelaus

Olim in Graecia regnabant Agamemnon et Menelaus; copias parabant et ad Asiam navigaverunt. Cum incolis Asiae diu pugnabant; troiam oppugnaverunt et tandem superaverunt. Inter incolas troiae pugnabat Aeneas ubi advenae troiam expugnaverunt, Aeneas late errabat et tandem ad Italiam navigavit cum incolis Italiae pugnavit et superavit. Aeneadae Albam Longam aedificaverunt. Postea Romulus Romam prope Albam Longam aedificavit et ibi regnabat. Incolae Romae late per Italiam famam comparabant. Cum incolis Italiae pugnabant et saepe superabant.

Aeneas

Inter principes Troianorum erat Aeneas, vir clarus, qui patriam magnopere amabat. Ubi Graeci ex equo ligneo descendebant, Aeneas ignarus periculi dormiebat. Repente in somno formam vidit Hectoris iam mortui, qui longam barbam habebat multaue vulnera sua monstrabat. Timor animum Aeneae occupavit; Hector voce tristi multisque lacrimis fatum Troiae monstravit. “Hostes”, inquit, “muros Troiae habent; mox urbem nostram incendunt. Nunc tempus est Troiam miseram relinquere. Mandat tibi patria tua deos, Penates et Vestam, cuius ignis aeternus est. Tu mortem vitabis et ex Asia tutus navigabis : inde per omnia maria diu errabis, tandem ad Italiam venies urbemque ibi condes, quae sociis tuis deisque aeterna sedes erit”. Somnus Aenean reliquit. Undique Graecos feroces, undique ignes mortemque crudelem videt. Petit statim patrem. Uxorem, liberos; quos per vias, per tela, per hostes ad oram maritimam ducit. Ibi navem invenit et ex patria cum suis navigat.

Tempus Saturni

Primum omnium deorum Graeci “Cronos” vocabant, Romani Saturnum. Saturnus nomen habuit ex voce serere, scilicet sementem facere. Saturni temporibus vita fuit beata et fere divina. Saturni igitur aetatem poetae auream vocaverunt. Tunc homo hominem diligebat, omnes iustitiam atque pietatem colebant; homines pii erant erga deos, erga hospites, erga parentes, nec discordia nec auri sacra fames animos torquebat. Agrorum incolae ignorabant dolos et fraudes, caedes et bella, galeas atque enses. Pudor et concordia, veritas atque iustitia, ut Vergilius quoque narrat, tuta regnabant.

Iuppiter

Graeci et Romani plurimos deos deasque colebant, numerusque deorum dearumque prope infinitus erat. Antiquissimus omnium fuit Uranus.

Iuppiter, Saturni et Rheae filius, patrem deiecit de caelo et regnum cum fratribus Neptuno et Plutone divisit. Dominus caeli fuit et deorum hominumque pater. Iovis sedes in Olympi vertice erat; nutu capitis nubes cogebat; imbres et nives et tonitrua mittebat in terram; dextra manu sagittas igneas, magno cum strepitu iaciebat. Romani Iovem appellaverunt optimum maximum et habuerunt rei publicae defensorem custodemque. Iovi sacra fuit aquila, rapacissima ex avibus.

Mercurius

Mercurius nomen habuit a mercibus et a mercatura. Maiaie filius, interpres et nuntius deorum fuit. Hac de causa alas in capite et in pedibus habebat. Mercurii officium erat animas mortuorum ad inferos deducere, etiamque auxilium furibus dare.

Multis de Mercurii rebus gestis veteres poetae narraverunt. Adhuc puer callida furta confecit et spoliavit Iovem fulminibus Apollinem cetra. Romani Mercurii simulacra in triviis et in compitis posuerunt.

Iter Solis

Apollo, sive Phoebus, Solem, apud antiquos, significabat. Mane cum Aurora splendidissimis radiis ex oriente surgebat; Apollinis currum alati et albi equi trahebant.

lux, iam iamque clarior, hominum opera collustrabat. Agricolae beneficentissimum solis calorem laudabant ; arbores et animalia vires reficiebant.

Ad meridiem phoebus fervidissimo calore terram siccant ; in pratis maior et instantior fuit cicadarum cantus.

Mox autem equi praecipitant ad mare; Apollo mitiore luce fulget et currus inter plurima nubila occidit, rutilo orbi simillimus.

Aeneas addresses his followers

Patriam olim amavimus, ubi in patria habitabamus. Hodie procul a Phrygia erramus. Advenae troiam expugnaverunt et nos e patria fugaverunt : nos patriam in terra advenarum exploramus, et troiam iterum aedificiabimus ad Italiam tandem navigavimus. Incolae Italiae contra nos coniurant et copias parant, cras oppugnabunt. Sagittis nos vulnerabunt, fortasse primo fugabunt; non tamen superabunt si primo nos fugaverunt, non vos a pugna revocabo. Iterum oppugnabimus tandem superabimus. Olim vos inter incolas Asiae famam comparavistis. Si famam amatis, servabitis.

Reginae pulchrae

Cleopatra est regina. Helena quoque est regina. Dido et Boudicca et Penelopa quoque sunt reginae. Cleopatra et Helena et Dido et Boudicca et Penelopa sunt reginae.

Cleopatra est regina pulchra. Cleopatra est regina pulchra et clara. Cleopatra est regina Alexandriae. Cleopatra philosophiam et historiam et geographiam et litteras amat. Incolae Cleopatram bene amant quod Cleopatra est regina bona. Helena est regina pulchra. Helena est regina pulchra et clara. Helena est regina Graeciae. Alexander ad Graeciam navigat. Alexander Helenam amat et ad Troiam in navicula portat. Nunc Helena non est in Graecia. Helena in Troia habitat. Incolae Helenam non amant quod Helena non est regina bona. Dido est regina pulchra. Dido est regina pulchra et clara. Dido est regina Carthagini. Carthago est in Africa. Dido philosophiam et historiam et geographiam et litteras bene amat. Incolae reginam

amant quod Dido est regina bona. Boudicca est regina pulchra. Boudicca est regina pulchra et clara. Boudicca est regina Britanniae. Incolae Boudiccam bene amant quod est regina valida. Nautae Romae ad Britanniam navigant et incolas Britanniae superant. Boudicca valida nautas Romae vulnerat. Tandem nautae Britanniae Boudiccam necant. Penelopa est regina pulchra. Penelopa est regina pulchra et clara. Penelopa est regina Ithacae. Ithaca est in Graecia. Penelopa philosophiam et historiam et geographiam et litteras amat. Incolae Penelopam bene amant. Quod Penelopa est regina bona.

GRAECIA

Graecia est in Europa. Graecia non est insula. Graecia est paeninsula. Graecia non est insula sed paeninsula. Graecia est terra antiqua et clara et pulchra. In Graecia sunt viae multae et longae. In Graecia sunt statuae antiquae et clarae et pulchrae.

Incolae Graeciae sunt agricolae et nautae. Incolae patriam amant et bene laborant. Dum laborant cantant. Incolae silvas et rosas amant. Incolae ad terras multas navigant. Alexandriam et Romam et Britanniam saepe visitant.

Juno est dea. Diana et Venus quoque sunt deae. Juno est dea antiqua et clara et bona. Juno est regina dearum. Diana puellas bene curat. Diana silvas et rosas amat. Diana nautas bene iuvat. Diana est dea lunae. Venus fortunam bonam feminis multis dat. Incolae deas multas adorant.

Helena est regina Graeciae. Helena est clara et pulchra. Fama Helenae est magna. Servae statuas Helenae rosis

ornant. Poetae fabulas multas et longas et bonas de Helena narrant. Helena philosophiam et historiam et geographiam et litteras amat. Incolae Helenam amant quod Helena est regina bona.

Alexander ad Graeciam navigat et Helenam amat. Alexander Helenam ad Troiam in navicula portat. Nunc incolae Graeciae Helenam non amant quod Helena ad Troiam navigat. Agamemnon et copiae Graeciae ad Troiam navigant. Copiae Graeciae et incolae Troiae diu pugnant. Tandem copiae incolas superant.

Nunc Roma est regina Europae. Nautae Romae terras multas superant. Nautae Romae ad Graeciam navigant. Nautae Romae et incolae Graeciae diu pugnant. Nautae incolas hastis et sagittis vulnerant. Roma Graeciam superat. Graecia est provincia Romae.

Ulixes

Sed etiam post Hectoris mortem Troiani pugnabant et principes multi et clari ad Orcum descenderunt. Achilles mortem non vitavit, nam ex muris Paris eum vidit et auxilio Phoebi sagitta eum occidit, neque Thetis dea filium suam servavit. Vir erat inter omnes Graecos ob sapientiam et fallacias notus Ulixes. “Diu pugnamus”, inquit, “et in Graecia nos diu exspectant uxores nostrae, sed non facile erit muros tam validos armis expugnare neque victoria nobis erit nisi consilio meo”. Ubi Graeci consilium Ulixis audiverunt, post omnia belli pericula victoriam salutemque tandem sperabant. Itaque equum ligneum fabricaverunt Graeci et in equo ingenti milites multos celaverunt; tum omnibus navibus ad insulam tandem nocte discesserunt : equum viris plenum in ora maritima et mendacem, Sidonem nomine, in silva finitima reliquerunt.

Ignis sacer

Multae fabulae sunt de primis hominibus : Graeci et Romani fabulam sic narrant : Prometheus, Titanus, homines primos e luto et aqua facit. Sed homines primi vitam non habent; sunt membra et corpora sine vita. Tandem vitam a prometheo accipiunt. Homines iam vivunt. Sed homines primi miseri et tristes sunt quia ignem non habent. Quia ignem non habent, omnes utiles artes ignorant. Quia artes omnes ignorant, male vivunt. In cavernis habitant quia villas non habent. Bacas edunt quia cibum non habent. Iuppiter solus ignem habet; Prometheus igitur ab Iove ignem petit sed Iuppiter ignem non dat. Prometheus igitur ignem e sole rapit et ad terram portat. Homines iam ignem accipiunt et brevi tempore artes omnes habent. Sed Iuppiter iratus est et Prometheum crudeliter punit. Iuppiter Prometheum ad montem Caucasum vinculis adfigit; vultur corpus Promethei semper mordet.

Alexander

Troia erat oppidum magnum in Asia ubi regnabat Priamus. Multa oppida parva superavit et divitias magnas comparavit. Graeci ad oras Asiae saepe navigabant : Priamum non amaverunt quod nautas Graecos iubebat pecuniam Troianis dare. Sed muri Troiae validi erant, itaque Priamus iram Graecorum non timuit. Nupta Priami erat Hecuba : liberos multos et claros habuerunt. Sed dei clamaverunt “ O Priame, filius parvus tuus Alexander Troianis erit periculosus : Troianos iubemus Alexandrum expellere ”. Verba deorum Priamum terrerunt : lacrimae nuptae animum non moverunt. Servum fidum iussit puerum ex oppido portare et in loco deserto relinquere. Sed ferae puerum non devoraverunt. Agricola Alexandrum miserum invenit et in casam suam portavit ubi nupta agricolae puerum cura magna educavit. Itaque consilium Priami Troiam non servavit. Alexander enim vivus erat et bellum Troianum postea movit.

Helena

Graecia est in Europa. Graecia est paeninsula. Graecia est antiqua et clara et pulchra. Incolae sunt agricolae et nautae. Incolae linguam Graecam recitant. Lingua Graecia antiqua et clara et pulchra. Linguam Graeciam amamus et semper laudabimus. Incolae patriam amant et bene laborant. Lunam et stellas et deas multas adorant. Deae fortunam bonam incolis dant. Incolae ad terras multas navigant. Incolae philosophiam et historiam et geographiam et litteras bene amant. Homerus fabulas multas et longas et bonas de Helena narrat. Ilias et odyssea sunt fabulae antiquae et clarae et pulchrae. Socrates philosophiam bene amat. Herodotus historiam bene amat. Sophocles fabulas multas et claras et bonas de feminis multis et claris narrat. Helena est regina Graeciae. Helena est regina pulchra et clara. Alexander ad Graeciam navigat et Helenam amat. Alexander Helenam ad Troiam portat.

Incolae Graeciae Helenam non amant quod Helena ad Troiam navigat. Etiam hodie poetae fabulas multas et bonas de Helena narrant.

AENEIDOS

Sic fatur lacrimans, classicae inmittit habenas, et tandem Euboicis Cumarum adlabitur oris. Obvertunt pelago proras; tum dente tenaci ancora fundabat naves, et litora curvae praetexunt puppes. Iuvenum manus emicat ardens litus in hesperium; quaerit pars semina flammae abstruse in venis silicis; pars densa ferarum tecta rapit silvas, inventaque flumina monstrat. At pius Aeneas arces, quibus altus Apollo praesidet, horrendaeque procul secreta Sibyllae, antrum inmane, petit, magnam cui mentem animumque Delius inspirit vates, aperitque futura. Iam subeunt Triviae lucos atque aurea tecta. Daedalus ut fama est, fugiens minoia regna, praepetibus pennies ausus se credere caelo, insuetum per iter gelidas enavit ad arctos, Chalcidicaque levis tandem super adstitit arce. Redditus his primum terries tibi, Phoebe, sacravit remigium alarum, posuitque inmania templa. In foribus letum Androgeo; tum pendere poenas

Cecropidae iussi miserum! septena quotannis corpora
natorum; stat ductis sortibus urna. Contra elata mari
respondet Gnosia tellus: hic crudelis amor tauri,
suppostaque furto Pasiphae, mixtumque genus
prolesque biformis Minotaurus inest, veneris
monimenta nefandae; hic labor ille domus, et
inextricabilis error; magnum reginae se denim
miseratus amorem Daedalus ipse dolos tecti
ambagesque resolvit, caeca regens filo vestigia. Tu
quoque magnam partem opere in tanto, sineret dolor,
Icare, haberes. Bis conatus erat casus effingere in auro,
bis patriae cecidere manus. Quin protinus omnia
perlegerent oculis, ni iam praemissus Achates adforet,
atque una Phoebi Triviaeque sacerdos, Deiphobe
Glauci, fatur quae tabia regi: non hoc ista sibi tempus
spectacula poscit; nunc grege de intacto septem
mactare iuencos praestiterit, totidem lectas de more
bidentes. Talibus adfata Aenean – nec sacra morantur
iussa viri – Teucros vocat alta in templa sacerdos.

Excisum Euboicae latus ingens rupis in antrum, quo
lati ducunt aditus centum, ostia centum; unde runt
totidem voces, responsa Sibyllae. Ventum erat ad
limen, cum virgo, poscere fata tempus, ait; deus, ecce,
deus! Cui talia fanti ante fores subito non voltus,
non color unus, non comptae mansere comae; sed
pectus anhelum, et rabie fera corda tument; maiorque
videri nec mortale sonans, adflata est numine quando
iam propiore dei, cessas in vota precesque, Tros, ait,
Aenea, cessas? Neque enim ante dehiscunt attonitae
magna ora domus, et talia fata conticuit. Gelidus
Teucris per dura cucurrit ossa tremor, funditque preces
rex pectore ab imo, Phoebe, graves Troiae semper
miserate labores, Dardana qui paridis direxti tela
manusque corpus in Aeacidae, magnas obeuntia terras
tot maria intravi duce te penitusque repostas Massylum
gentes, praetentaque Syrtibus arva, iam tandem Italiae
fugientes prendimus oras, hac Troiana tenus fuerit
fortuna secuta. Vos quoque Pergameae iam fas est

parcere genti, dique deaque omnes, quibus obstitit
ilium et ingens, gloria Dardaniae. Tuque, o sanctissima
vates, praescia venturi, da – non indebita posco regna
meis fatis – latio considerare Teucros, errantesque deos
agitataque numina Troiae. Tum Phoebo et Triviae
solido de marmore templum instituam, festosque dies
de nomine Phoebi. Te quoque magna manent
regnis penetralia nostris; hic ego namque tuas sortes
arcanaque fata, dicta meae genti, ponam lectosque
sacrabo, alma, viros. Foliis tantum ne carmina manda,
ne turbata volent rapidis ludibria ventis: ipsa canas oro
finem dedit ore loquendi. At, Phoebi nondum patiens,
inmanis in antro bacchatur vates, magnum si pectore
possit excussisse deum: tanto magis ille fatigat os
rabidum, fera corda domans, fingitque premento.
Ostia iamque domus patuere ingentia centum sponte
sua vatisque ferunt responsa per auras: o tandem
magnis pelagi defuncte periculis – sed terrae graviora
manent: in regna Lavini Dardanidae venient, mitte

hanc de pectore curam, sed non et venisse volent.
Bella, horrida bella, et Thybrim multo spumantem
sanguine cerno. Non Simois tibi nec Xanthus nec
Dorica castra defuerint: alius latio iam partus Achilles,
natus et ipse dea: nec Teucris addita Iuno usquam
aberit; cum tu supplex in rebus egenis quas gentes
italum aut quas non oraveris urbes! causa mali tanti
coniunx iterum hospita Teucris, externique iterum
thalami. Tu ne cede malis, sed contra audentior ito,
qua tua te fortuna sinet. Via prima salutis, quod
minime reris, Graia pandetur ab urbe.

Romulus and Remus

Amulius et Numitor duo sunt fraters. Urbs eorum nomine Alba est. Est urbs Alba prope Tiberim flumen. Amulius gentis rex est, et fratrem Numitorem timet. Amulius filios nullos habet : Numitoris filia duos. Itaque Amulius servo dicit : Cape duos pueros et in Tiberim flumen mitte. Puerorum mortem cupio. Servus pueros capit et ad flumen venit. Servus prope flumen stat et pueros diu spectat. Pueri rident Servus Amulium timet : sed Numitorem amat. Itaque pueros non interficit. Eos prope aquam fluminis ponit, ibi relinquit. Tiberis flumen “ nam flumina semper di sunt” pueros servat : aqua recedit, eos non interficit. Sed iam aliud venit periculum. Lupa catulos amat et passim quaerit. Voces puerorum lupa audit, ad eos venit. Deus fluminis lupae furorem retinet : ea pueros non interficit, sed curat. Lupa pueris mater est. pueri in lupae antro diu habitant. Ibi tandem pastor eos invenit, et domum ad uxorem ducit. Itaque filii Numitoris filiae

inter filios pastorum habitant, et cum pastoribus in agris laborant. Sunt nomina puerorum Romulus et Remus. Multis post annis viri validi et fortes sunt : pastorum aliorum duces sunt. Mox inter pastores Amuli et Numitoris pugna est. pastores Numitoris Remum diu spectat et ita dicit : “ tu pastoris filius non est. unde venis? ” Remus respondit : lupa mater mea est : ex lupae antro venio, Numitor mox omnia audit et filiae filium agnoscit. Tum Romulus Remusque multos homines ad se vocant : Amulium oppugnant et interficiunt, Numitorem regem Albae faciunt. Cives Albani Numitorem amant, factum fratrum approbant. Sed fratrum amicos non approbant : sunt enim servi fugitivi, exules, pauperes, etiam latrones. Romulus igitur et frater aliam urbem non procul ab Alba aedificant. Urbem novam de Romuli nomine Romam appellant. In novam urbem homines fugitivi, exules, pauperes, undique conveniunt. Mox contentio inter fratres est, et Romuli amicus Remum interficit. Tum

Romulus solus dux est hominum multorum. Circum urbem muros validos aedificant. Urbs nova iis grata est. Sed pauci eorum uxores habent : nam homines aliarum urbium eos despiciunt. Romulus igitur cum civibus suis consilium parat. Festam diem instituit : nuntios ad cives aliarum urbium mittit, cenam et vinum promittit, omnes venire iubet. Cives Albani non veniunt, sed Sabinorum veniunt multi cum uxoribus et liberis. Romulus omnes benigne recipit. Primo sacrificium facit : deinde Sabinos ad cenam vinumque vocat. Omnes laeti sedent, edunt, rident. Romuli homines permulti adsunt et ad ducem oculos vertunt. Subito Romulus signum dat. Statim Romani Sabinos oppugnant, non telis sed manibus. Feminas capiunt, viros ex urbe expellunt : Sabini ad urbem suam irati discedunt. Feminae lacrimant : sed Romani eas benignis verbis mulcent et dominas domorum suarum faciunt. Mox feminae viros, domibus, urbe Roma contentae sunt. Sabini Romanorum multitudinem et

ferocitatem timent. Primo consilium nullum habent. Auxilium ab aliis urbitus petunt : sed aliae quoque urbes Romanos timent. Annus totus praeterit, consilium Sabini adhuc parant, nil faciunt. Tandem omnia parata sunt, et cum sociis arma capiunt et castra prope urbem Romam ponunt. Romani quoque arma capiunt : ex urbe procedunt, uxores domi relinquunt. Iamque Romani et Sabini inter se ferociter pugnant. Subito viri clamores femineos audiunt, et turbam feminarum ibi inter gladios attoniti vident. Romani uxores, Sabini filias et sorores agnoscunt. Simul feminae, pugna desistite, clamant, causa pugnae nulla est. nos et patres et viros nostros amamus; et antiquam patriam et novam. Non nullae etiam parvos liberos portant, et patribus monstrant. Itaque omnes pugna desistunt et in colloquium veniunt. Tandem pacem faciunt, et Sabinorum multi domos mutant et Romae habitant. Quod Roma urbs valida est, ex aliis quoque urbibus multi homines eo veniunt. Romanos non iam

despiciunt : nomen Romanum magno in honore habent. Mox post Numitoris mortem Albani quoque se cum Romanis iungunt : civium Romanorum numerus iam maximum est. Romulus concilium senum facit et senatum appellat. Senatores una cum rege omnia consilia capiunt. Leges praeterea bonas Romulus facit, et divites et pauperes leges servare docet. Et populo quidem imperium romuli gratum est, senatoribus nobilibus minus gratum : nobiles enim potestatem cupiunt. Multis post annis Romulus iam senex ab omnium oculis subito discedit. Corpus eius nemo invenit. Cives Romani eum postea tamquam deum colunt.

Agamemnon

Nuntii ad oppida multa Graeciae cucurrerunt : “Menelaus”, clamabant, “bellum in Troianos gerere constituit et Graecos ad arma vocat”. Nec Menelaus frustra auxilium rogat. Milites multi venerunt et naves multas paraverunt Graeci. Sed Agamemnon, frater Menelai, Graecorum dux, cervum Dianae sacrum occidit : itaque dea irata ventum navibus Graecorum non dabat. “Agamemnon”, inquit, “cervum meum occidit : Agamemnon iubeo filiam suam Iphigeniam occidere”. Lacrimis multis Agamemnon verba Dianae audivit. Iphigeniam magnopere amabat, sed milites ducem suum ob moram culpabant et iam magna cibi inopia in castris Graecorum erat. Tandem pater filiam ad castra venire iussit. “ob causam diram”, inquit, “venisti : ventum diu rogamus sed Diana irata naves nostras hic tenet et ob mortem cervi sui vitam tuam rogat”. Tum puella intrepida, “non pater”, inquit, “sed

dea causa mortis meae erit : si salutem Graecis do,
mortem non timeo”. Sic virtus Iphigeniae Graecos
liberavit et ad bellum misit.

Achilles

Postea naves Graecorum armis militibusque plenae ad Asiam appropinquant. Hector, dux Troianorum, cum copiis magnis hostes exspectat. Diu pugnant Graeci Troianique sed tandem Graeci victoriam reportant et Troianos ab ora maritima fugant. Tum naves suas in terram trahunt et castra vallo fossaque muniunt. Sic Agamemnon Troianos vicit sed, ubi Troiae validos vidit, copias ab urbe reduxit : parva oppida finitima, ubi habitabant Troianorum socii, oppugnare constituit. Achilles, Pelei filius, Graecos alios virtute superabat, itaque eum in hostium oppida misit Agamemnon. Achilles oppida multa oppugnavit et ex eis divitias magnas, multos servos, paellas pulchras comparavit. Puella erat Briseis nomine; eam delegit Achilles. “Tu mihi”, inquit, “uxor eris”. Sed Agamemnon Briseida pulchram vidit. “Ego”, inquit, “dux Graecorum sum : te iubeo puellam mihi tradere”. Tum Achilles iratus clamavit : “Tu in castris tutus semper manes neque

oppida hostium oppugnare, o Agamemnon, sed me tibi
puellam meam tradere iubes : tu bona semper devoras :
non iam servus tuus ero”. Sic verbis iratis ducem suum
culpavit neque iam Graecos in bello adiuvat.

Hector

Ubi Achilles in tabernaculo suo manebat neque iam Graecos adiuuabat, Hector, Priami filius, multis cum militibus castra hostium oppugnavit. “o Troiani”, clamavit, “iam dei victoriam magnam nobis dant : Achilles diu nos terret, sed nunc ob iniuriam iratus suos non adiuvat : tempus est nobis Graecos vincere et ex Asia expellere”. Achilles Patroclum magnopere amabat. Ubi Patroclus hostes non procul ab navibus Graecorum vidit, Troianos oppugnavit et ex castris fugabat. Tum Hector oculos in Patroclum vertit : “non iam”, inquit, “Achilli carus eris, nam ad Orcum te mitto :” et statim hasta eum occidit. Tum ira magna animum Achillis movet. Relinquit tabernaculum, in proelium currit, Hectorem tandem invenit. “Mortuus Patroclus”, inquit, “mortem tuam rogat”: et Hectorem statim occidit. Inde Achilles corpus Hectoris miseri ter circum muros Troiae trahit. Lacrimis multis Troiani ex muris principem mortuum vident.

Romulus et Sabinae

Romulus erat Martis filius. Apud Romanos Mars erat deus belli armorumque. Romani Martem adorabant et in eius aris victimas mactabant. Romulus igitur proeliis armisque vehementer studebat. Olim viri solum Romam habitabant neque ullas feminas habebant. Itaque Romulus incolas cunctos convocavit et “O popule care” inquit “nullas feminas habemus sed sunt Sabinis, in vicis Romae finitimis, feminae et multae et formosae. Eos igitur cum feminis eorum ad ludos invitabimus, deinde eas raptare poterimus”. Sabini, ubi Romani eos ad ludos gratos invitaverant, ad oppidum Romam pulchris cum puellis libenter maturaverunt. Dum Sabini ludos Romanos spectant, Romani subito clamaverunt; et ecce! Puellas solas raptaverunt easque ad tecta sua moverunt. Frustra matres earum lacrimaverunt, frustra viros suos ad arma incitaverunt. Romanis enim non Sabinis gladii, hastae, scuta fuerunt. Quo modo Sabini infirmi victoriam contra Romanos, populum improbum, sperare potuerunt?.

Bellum civile post mortem Caesaris

Anno Urbis septingentesimo fere ac nono, interfecto Caesare, bella civilia reparata sunt. Percussoribus enim Caesaris senatus favebat. Antonius consul, partium Caesaris, civilibus bellis opprimere eos conabatur. Ergo, turbata re publica, multa Antonius scelera committens, a senatu hostis iudicatus est. Missi sunt ad eum persequendum duo consules, Pansa et Hirtius, et Octavianus adulescens, annos decem et octo natus, Caesaris nepos, quem ille testamento heredem reliquerat. Hic est, qui postea Augustus dictus est et rerum potitus (est). Quare tres duces, contra Antonium profecti, eum vicerunt, evenit tamen, ut victores consules ambo merentur. Quare tres exercitus uni Caesari Augusto paruerunt.

Proelium Philipporum

Interea Brutus et Cassius, interfectores Caesaris ingens bellum moverunt. Erant enim per Macedoniam et Orientem multi exercitus, quos occupaverant. Profecti sunt igitur contra eos Caesar Octavianus, cui postea nomen Augustus inditum est, et M. Antonius. Apud Philippos, Macedoniae urbem, contra eos pugnaverunt. Primo proelio victi sunt Antonius et Caesar, periit tamen dux nobilitatis Cassius; secundo proelio Brutum et nobilitatem, quae cum illis bellum gesserat, victam interfecerunt. Tali ratione inter eos divisa est res publica, ut Augustus Hispanias Gallias et Italiam teneret, Antonius Asiam, Pontum, Orientem. Sed in Italia L. Antonius consul bellum civile commovit, frater eius qui cum Caesare contra Brutum Cassiumque dimicaverat.

Antonius et Cleopatra

Antonius, qui Asiam Orientemque tenebat, repudiata sorore Caesaris Augusti, Cleopatram, Aegypti reginam, uxorem duxit. Contra Persas ipse etiam pugnavit. Primis proeliis eos vicit, regrediens tamen, fame et pestilentia laboravit et, cum instarent Parthi (ei) fugienti, ipse pro victo recessit. Aliquot annis post, ingens bellum civile commovit, cogente uxore Cleopatra, dum, cupiditate muliebri, optat etiam in Urbe regnare. Victus est ab Augusti navali pugna clarissima apud Actium, qui locus in Epiro est, ex qua fugit in Aegyptum et; desperatis rebus, cum omnes ad Augustum transirent ipse se interemit, Cleopatra sibi aspidem admisit et veneno eius exstincta est. Aegyptus per Octavianum Augustum imperio adiecta est praepositusque ei Cn. Cornelius Gallus, clarus poeta.

Octavianus

Bellis toto orbe confectis, Octavianus Augustus Romam rediit, decimo et altero anno postquam consul fuerat. Ex eo anno rem publicam per quadraginta et quattuor annos solus obtinuit. Antea enim per duodecim annos cum Antonio et Lepido tenuerat. Ita ab initio principatus eius usque ad finem LVI anni fuere. Obiit autem septuaginta sex annos natus morte communi Atellae, in oppido Campaniae. Romae in Campo Martio sepultus est, vir qui non immerito ex maxima parte civium Deo similis est putatus. Neque enim facile ullus eo aut in bellis felicius fuit aut in pace moderatior. Quadraginta quattuor annos, quibus solus gessit imperium, civilissime vixit, in cunctos liberalissimus, in amicos fidissimus, quos tantis honoribus evexit, ut paene aequaret fastigio suo, Nullo tempore res Romana magis floruit.

Pompeius contra regem Mithridatem

Dum haec geruntur, piratae omnia maria infestabant ita, ut Romanis, toto orbe victoribus, sola navigatio tuta non esset. Quare id bellum Cn. Pompeio decretum est. quod bellum intra paucos menses ingenti et felicitate et celeritate confecit. Mox ei delatum est bellum etiam contra regem Mithridatem et Tigranem. Quo bello suscepit Mithridatem, in Armenia Minore, nocturno proelio vicit, castra diripuit, quadraginta milibus eius occisis, viginti tantum de exercitu suo perdidit et duos centuriones. Mithridates cum uxore fugit et duobus comitibus. Neque multo post, cum in suos saeviret, ad mortem coactus, Pharnacis, filii sui, seditione, venenum hausit. Hunc finem habuit Mithridates, vir ingentis industriae consiliique.

Bellum contra Cimbros et Teutones

Dum bellum in Numidia contra Iugurtham geritur, Romani consules, M. Manius et Q. Caepio, a Cimbris et Teutonibus et Tigurinibus et Ambronibus, quae erant Germanorum et Gallorum gentes, victi sunt iuxta flumen Rhodanum ingenti interfectione; etiam castra sua et magnam partem exercitus amiserunt. Timor Romae magnus fuit, ne iterum Galli Romam venirent. Ergo Marius, post victoriam Iugurthinam, secundo consul est factus, bellumque ab eo contra Cimbros et Teutones decretum est. Tertio quoque et quarto delatus est ei consulatus, quia bellum Cimbricum protrahebatur. Cum Cimbris itaque conflixit et duobus proeliis ducenta milia hostium cecidit (caedo), octoginta milia cepit et ducem eorum Teutobodum, propter quod meritum, absens, quinto consul est factus.

Bellum civile inter Marius et Sulla

Anno DCLXIV ab Urbe condita primum bellum civile Romae commotum eat; eodem anno etiam Mithridaticum. Causam bello civili C. Marius, consul sexies, dedit. Nam, cum Sulla consul, contra Mithridatem gesturus bellum, qui Asiam et Achaiam occupaverat, mitteretur (= cum consul Sulla, gesturus bellum, mitteretur contra Mithridatem, qui occupaverat ..) cum autem ipse (= Marius) exercitum in Campania paulisper teneret, ut belli socialis, quod intra Italiae fines gestum fuerat reliquiae tollerentur, Marius affectavit, ut ipse ad bellum Mithridaticum mitteretur. Qua re Sulla commotus, cum exercitu ad urbem venit. Ibi contra Marium et Sulpicium dimicavit. Primus in urbem Romam armatus ingressus est, Sulpicium interfecit, Marium fugavit, atque ita, consulibus designatis in futurum annum Cn. Octavio et L. Cornelio Cinna, ad Asiam profectus est.

Victoria Sullae in Archelao

Interea, etiam Athenae, civitas Achaiae, ab Aristone Atheniensi Mithridati tradita est. miserat enim iam ad Achaiam mithridates Archelaum, ducem suum cum centum et viginti milibus equitum ac peditum, per quem etiam reliqua Graecia occupata est. Sulla Archelaum, apud Piraeum, non longe ab Athenis, obsedit, ipsamque urbem capit. Postea, commisso proelio contra Archelaum, ita eum vicit, ut ex centum et viginti milibus vix decem Archelao superessent, ex Sullae exercitu quattuordecim tantum homines interficerentur. Hac pugne cognita, Mithridates septuaginta milia lectissima ex Asia Archelao misit, contra quem Sulla iterum proelium commisit. Primo proelio quindecim milia hostium interfecta sunt, inter quos Diogenes, filius Archelai. Secundo proelio omnes Mithridatis copiae extinctae sunt, Archelaus ipse triduo nudus in paludibus latuit. Hac re audita, Mithridates cum Sulla : de pace agi iussit.

Foedus cum Sabinibus

Inde ad foedus faciendum duces prodeunt, nec pacem modo sed civitatem unam ex duabus faciunt, atque imperium omne conferunt Romam. Ut Sabinis tamen aliquid daretur, cives Quirites a Curibus, oppido Sabinorum, appellati sunt. Centum ex senioribus Romulus legit, qui propter aetatem senatus vocati sunt. Plebem in curias triginta divisit. Eodem tempore centuriae conscriptae sunt. Romulo regnante Roma domi militiaeque tantum valuit ut quadraginta deinde annos tutam pacem haberet.

His rebus confectis, dum exercitum recenset, subito coërta est tempestas cum magno fragore tonitribusque, et Romulus e conspectu ablatu est; eum ad deos abisse volgo creditum est; cui rei fidem fecit Proculus, qui in contionem prodit et dixit Romulum caelo repente delapsu ita locutu esse : “ Abi, nuntia Romanis caelestes ita velle ut mea Roma caput orbis terrarum sit; proinde rem militarem colant sciantque

nullas opes humanas armis Romanis resistere posse”.
“Haec”, inquit, “locutus sublimis abiit”. Ita Romulus
pro deo cultus et Quirinus appellatus est.

Imperium Numa Pompilii

Post unius anni interregnum Numa Pompilius, vir summa iustitia et religione et consultissimus omnis divini atque humani iuris, rex creatus est. Curibus habitabat. Cum Roman venisset, ut ferocem populum religione ac metu deorum mitigaret, plurima sacra instituit et sacerdotes suos cumque deorum praefecit, Aram Vestae consecravit et ignem in ara perpetuo alendum virginibus dedit. Jovis sacerdotem creavit, insignique eum veste et curuli sella adornavit. Huic duos flamines adiecit, Marti unum, alterum Quirino Sacerdotes duodecim Marti legit, qui cae estia arma, quae ancilia appellantur, ferre per urbem canentes carmina solebant. Pontificem deinde maximum legit, eique omnia publica privataque sacra attribuit, ut idem pontifex deum consuleret auguriis quae suscipienda essent lanum indicem pacis bellique fecit, apertus ut in armis esse civitatem, clausus pacatos omnis populos significaret. Bis post Numa regnum clausus fuit,

semel T. Manlio consule post Punicum primum bellum, iterum imperatore Caesare Augusto post proelium Actiacum.

Ea pietate omnibus pectora imbuerat ut fides ac ius non minus quam poenarum metus civitatem regerent. Ita duo reges, alius alia via, ille bello hic pace, civitatem auxerunt. Romulus septem et triginta regnavit annos, Numa tres et quadraginta. Valida et belli et pacis artibus erat civitas.

Bellum inter Albanos et Romanos

Numae morte ad interregnum res rediit. Inde Tullum Hostilium, cuius avus in clara pugna adversus Sabinos fortissime pugnaverat, regem populus creavit. Hic non solum proximo regi dissimilis sed ferocior etiam quam Romulus fuit et undique materiam excitandi belli quaerebat. Forte evenit ut agrestes Romani ex Albano agro, Albani ex Romano, praedas agerent. Legatis ad res repetendas nequiquam missis, bellum utrimque summa ope parabatur. Albani priores ingenti exercitu in agrum Romanum fecere impetum. Interim Tullus audacter nocte in agrum Albanum iniit. Inde dux Albanus legatum praemissum nuntiare Tullo iubet, pruisquam dimicent, opus esse conloquio. Ita utrimque exercitus duces in medium ad conloquium procedunt. Ibi inquit Albanus : “Inurias et non redditas res et ego et tu, Tulle, causam huiusce esse belli vidimus. Sed si vera dicenda sunt, cupido imperi duos cognatos vicinosque populos ad arma stimulat. Itaque ineamus

aliquam viam qua utri utris imperent, sine magna clade, sine multo sanguine, decerni possit. Utrimque ratio inicitur, cui fortuna praebuit materiam.

Horatii et Curiatii

Forte in duobus tum exercitibus erant trigemini fratres, Horatii Curiatiique. Cum trigeminis agunt reges ut pro sua quisque patria dimicent ferro. Priusquam dimicarent foedus ictum est eis legibus, ut ibi imperium esset unde victoria fuisset. Foedere icto, trigemini arma capiunt et incitati adhortantium vocibus in medium inter duas acies procedunt. Considerant utrimque pro castris duo exercitus Signum datur infestisque armis terni iuvenes magno animo concurrunt. Ut primo concursu increpuere arma micantesque fulsere gladii, horror ingens spectantis perstringit. Consertis deinde manibus duo Romani super alium alius, volneratis tribus Albanis, exspirantes corruerunt. Ad quorum casum cum conclamasset gaudio Albanus exercitus, Romanae legiones sine spe iam in unum oculos convertere quem tres Curiatii circumsteterant. Forte is integer fuit et ferox, sed universis solus nequiquam par. Itaque fugam

simulavit ut singulos intervallis brevibus secuturos adgrederetur. Iam aliquantum spati ex eo loco ubi pugnatum est aufugerat, cum respiciens videt unum haud procul ab sese abesse. In eum magno impetu rediit et dum Albanus exercitus inclamat Curiatiis uti opem ferant fratri, iam Horatius coeso hoste victor secundam pugnam petebat. Tum clamore faventium adiutus, priusquam tertius consequi possset, et alterum Curiatium interficit. Iamque singuli supererant, sed nec spe nec viribus pares. Alter integer est et geminata victoria ferox, alter vulnere et cursu confectus est. Nec illud proelium fuit. Romanus exsultans illum male sustentem arma necat et iacentem spoliat. Romani ovantes ac gratulantes Horatium occipiunt : Ita exercitus inde domos abducti sunt. Princeps Horatius ibat trigemina spolia prae se gerens.

Imperium Anci Marcii

Tullo mortuo, Numae nepotem Ancum Marcium regem populus creavit. Ancus cupidus otii erat et avium mores atque instituta restituere parabat. Tum Latini, quibuscumque, Tullo regnante, ictum foedus erat, sustulerunt animos et incursionem in agrum Romanum fecerunt. Ancus, priusquam eis bellum indiceret, legatum misit, qui res repeteret. Legatus, ubi ad fines eorum venit, unde res repetuntur, capite velato, ait : “Audi, Iuppitar; audite, fines huius populi. Ego sum publicus nuntius populi Romani; verbis meis fides sit”. Inde legatus, qui fetialis appellatur, peragit postulate. Si non deduntur res, quas exposcit, hastam sanguineam in fines hostium emittit. Hoc modo bellum indictum est, moremque eum posterius acceperunt.

Legato res repetenti Latini superbe responderunt. Itaque bellum eis indicium est. Ancus exercitu novo conscripto profectus urbem Latinorum vi cepit, secutusque morem regnum priorum, qui rem

Romanam auxerant hostibus in civitatem accipiendis, multitudinem omnem Romam traduxit. Urbi montem Aventinum adiunxit. Laniculum quoque non solum muro sed etiam ob commoditatem itineris ponte Sublicio in Tiberim facto coniunctum est. Nec urbs tantum hoc rege crevit sed etiam ager finesque. Regnavit Ancus annos quattuor et viginti, cuilibet superiorum regnum belli pacisque et artibus et Gloria par.

Imperium Tarquini Prisci(616 – 578 B.C)

Ance regnante Lucius Tarquinius cum coniuge et fortunes omnibus Romam migravit. Ad Ianiculum forte ventum erat. Ibi ei, ut traditum est, carpento sedenti cum uxore aquila demissa pilleum aufert, superque carpentum cum mango clangore volitans rursus capiti apte reponit, inde sublimes abit. Accepit id augurium laeta uxor perita prodigiorum, et alta sperare virum iubet. Has spes cogitationesque secum portantes urbem ingressi sunt. Ibi benignitate ac comitate amicitiam Regis sibi conciliavit et tutor etiam liberis Regis institutus est. Itaque cum comitia regi creando fierent, pueros venatum misit et scienter effecit ut ipse consensu populi rex crearetur. Nec minus regni sui firmandi quam augendae rei publicae memor centum in patres legit. Bellum primum cum Latinis gessit, praedaeque inde magna potitus, ludos fecit. Tum primo circo, qui nunc maximus dicitur, designatus locus est; deinde annui mansere ludi. Bello Sabino confecto

Tarquinius primus triumphans Romam rediit. Maiore inde animo pacis opera inchoavit quam gesserat bella; nam muro lapideo urbem cingere parat, et infima urbis loca circa forum cloacis siccant; et aedem Iovis in Capitolio inchoavit.

Eo tempore in regia prodigium visu mirabile fuit : puero dormienti, cui Servio Tullio fuit nomen, caput arsit. Tum Tanaquil : “Scire licet”, inquit, “hunc lumen quondam rebus nostris adflictis futurum praesidiumque : proinde eum omni indulgentia nutriamus”. Inde puer omnibus artibus puerilibus eruditus est. Iuvenis evasit vere indolis regiae, nec, cum quaereretur gener Tarquinio, quisquam Romanae iuventutis ulla arte conferri potuit; filiam ei suam rex in matrimonium dedit. Duodequadragesimo ferme anno ex quo regnare coeperat Tarquinius, non apud regem modo sed apud patres plebemque maximo honore Servius Tullius erat. Tum Anci filii duo, indignantes quod patrio regno tutoris fraude pulsati essent, et veriti ut ne

ab Tarquinio quidem ad se rediret regnum, regem in regia occiderunt. Clamor inde subito ortus est

concursumque mirantium quid rei esset. Tanaquil inter tumultum claudi regiam iubet. Cum clamor impetusque multitudinis vix sustineri posset, ex superiore parte aedium per fenestras populum adloquitur. Iubet bono animo esse : sopitum fuisse regem subito ictu; ferrum haud alte in corpus descendisse; paucis diebus ipsum regem esse visuros; interim Servium Tullium Regis munera obiturum esse. Servius cum lictoribus prodit, ac sede regia sedens alia decernit, de aliis consulturum se regem esse simulate. Itaque per aliquot dies, cum iam exspirasset Tarquinius, celata morte suas opes firmavit. Tum demum, cum comploratione in regia orta mors patefacta esset, Servius voluntate patrum regnavit. Anci liberi iam tum exsulatum ierant.

Imperium Servii Tullii (578-534 B.C.)

Servius Tullius scienter ac bene imperium administravit. Nec iam publicis magis consiliis quam privates se munivit. Peropportune Veientibus bellum indictum est. in eo bello et virtus et fortuna enituit Tulli; fusoque ingenti hostium exercitu summo cum honore rediit, adgrediturque ad pacis maximum opus. Censum enim instituit, rem saluberrimam futuro imperio. Tum classis centuriasque ex censu descripsit. Prima classis divisa est in seniores qui urbem custodirent; iuvenes qui bella gererent. Milia LXXX civium censa dicuntur. Ad eam multitudinem urbs quoque amplificanda erat. Addit duos collis, Quirinalem Viminalemque. Aggere et fossis et muro circumdat urbem. Simul et aliquod addere urbi decus voluit. Iam tum erat inclitum Dianae fanum. Id communiter a civitatibus Asiae factum erat. Eum consensum civitatum laudavit Servius. Itaque populis Latinis persuasit ut et ipsi Romae fanum Dianae cum

populo Romano facerent. Ea erat confessio caput rerum Romam esse de quo totiens armis certatum erat. Servius Tullius duas filias, alteram ferocem, alteram mitem, habebat. Duo quoque Tarquini Prisci filii longe dispares moribus errant. Forte accidit ut Tullia ferox Tarquinio miti nuberet; Tullia mitis Tarquinio feroci. Sed ferox Tullia mitem virum mox despiciebat et alterum Tarquinium mirabatur. Ita Lucius Tarquinius et Tullia minor, cum morte domos vacuas novo matrimonio fecissent, iunguntur nuptiis. Statim Tarquinius, qui postea Superbus appellatus est, a Tullia incitatus, convocato senatu regnum petere coepit. Quare audita, Servius ad curiam properavit. “Quid hoc”. Inquit, “Tarquini, rei est? Qua tu audacia me vivo vocare ausus es patres?” cum ille ferociter respondisset, clamor oritur et concursus populi fiebat in curiam. Tum Tarquinius viribus validior arripit Servium, atque e curia per gradus deicit. Inde prope exsanguis fugiens interficitur. Tullia carpento in forum invecta evocavit

virum e curia, regemque prima appellavit. A quo iussa ex tanto tumultu discedere cum domum redirect, is qui carpentum agebat subito restitit pavidus iacentemque Servium trucidatum ostendit. Foedum inhumanumque inde traditur scelus. Nam amens Tullia per patris corpus carpentum egit. Servius Tullius regnavit annos quattuor et quadraginta.

Imperium Tarquini Superbi (534-510 B.C.)

Ubi Tarquinius regnare coepit, principes civitatis, quos Servio favisse credebat, interfecit et armatos circum se habebat. Neque enim ad ius regni quicquam praeter vim habebat quod neque populi iussu neque auctoritate partum regnabat. Itaque, cum in voluntate civium nihil spei reponere posset, metu regnum retinuit atque imperium sine consilio per se solum exercebat. Alios inimicos occidit, alios in exilium egit. Morem senatum consulendi solvit; bellum, pacem, foedera, quibuscum voluit, fecit. Latinorum sibi maxime gentem conciliabat, ut peregrinis quoque opibus tutior inter civis esset; Mamilio, principi Latinorum, filiam nuptum dat. Iam magna Tarquini auctoritas inter Latinos erat. Ita renovatum est id foedus, quo res omnis Albana cum coloniis suis in Romanum cessit imperium.

Cum iniustus esset in pace rex, tamen dux belli audax fuit; ea arte aequasset superiores reges, nisi degener in aliis fuisset. Is primus Volscis bellum intulit

Pometiamque ex his vi cepit. Captiva praeda magnificum illum templum Iovis inchoavit. Deinde Gabios, propinquam urbem, nequiquam vi adortus, fraude ac dolo adgressus est. Nam, cum se bellum, ponere sinmlaret, Sextum filium Gabios misit. Sextus benigne ab Gabinis excipitur, quod patris superbiae vitandae causa se venisse simulavit. Ita Gabinis persuadet ut bellum contra regem redintegret et efficit ut ipse dux belli legatur. Tum secreto nuntium Romam ad patrem mittit rogatum quid se facere vellet. Rex in hortum ambulavit sequente nuntio fili; ibi tacitus summa papaverum capita dicitur baculo decussisse, neque ullam vocem emississe. Nuntius Gabios rediit et quid vidisset nuntiavit. Sextus, quid vellet parens, intellexit et multos principes civitatis interfecit. Eorum bona inter multitudinem divisit. Itaque largitione populus conciliatus est donec orba consilio auxilioque Gabina res regi Romano sine, ulla dimicatione traditur. Inde ad negotia urbana mentem convertit. In perficiendo templo Iovis summa pecunia atque operis

plebis usus est. Fabros ex Etruria arcessivit. Foros in circo fecit cloacamque maximam, receptaculum omnium purgamentorum urbis sub terra egit; quibus duobus operibus vix quicquam novum adaequare potest. Rex Romanus iam magnificentia publicorum operum exhauriebatur, atque ut praeda potiretur Ardeam vi oppugnavit. Hanc urbem dum oppugnat, negotium ei domi contrahitur. Nam eius filius Lucretiae, coniugi Tarquini Collatini, vim fecerat. Illa maesta se occidit in conspectu viri patrisque, obtestata eos ut hanc iniuriam ulciscerentur. Hanc ob causam et propter superbiam ipsius Regis L. Brutus, Collatinus, alique cum incenso populo egerunt ut imperium regi abrogaret, exsulesque esse iuberet L. Tarquinius cum coniuge ac liberis. L. Tarquinius Superbus regnavit annos quinque et viginti. Ita Romae septem reges regnaverunt annos ducentos quadraginta tres. Duo consules inde create sunt, L. Junius Brutus et L. Tarquinius Collatinus.

Menses anni

Apud Romanos veteres, anni menses decem fuerunt. Primus fuit Martius, secundus Aprilis, tertius Maius, quartus Iunius, quintus Quinctilis, sextus Sextilis, septimus September, octavus October, nonus November, decimus December.

Annus omnino trecentorum et quattuor dierum erat. Numae Pompili temporibus, ut fabula narrat, additi sunt duo menses; prior fuit Ianuarius, Iano, pacis bellique deo, dicatus; alter Februarius, Februo Etruscorum deo; dies fuerunt quinquaginta quinque. Solum autem anno quadragesimo sexto a. chr. n., c. Iulius Caesar ordinem dierum mutavit, et annus constitit trecentis sexaginta quinque diebus. Quarto quoque anno bisextilis annus erat; eo anno Februarius mensis undetriginta dierum erat.

Boudicca

Hodie fabulam novam narramus. Poetae fabulam sic narrant. Britannia est insula. Sardinia et Corsica et Sicilia quoque sunt insulae. Britannia et Sardinia et Corsica et Sicilia sunt insulae in Europa. Britannia est terra barbara. Alexandria non est terra barbara. Graecia et Roma quoque non sunt terrae barbarae. Alexandria et Graecia et Roma non sunt terrae barbarae sed Britannia est terra barbara.

Incolae Britanniae sunt agricolae et nautae. Incolae patriam amant et bene laborant. Dum laborant cantant. Incolae silvas et rosas amant. Incolae deas multas adorant. Deae fortunam bonam incolis dant.

Boudicca est regina Britanniae. Boudicca est clara et pulchra et valida. Fama Boudiccae est magna. Audacia quoque Boudiccae est magna. Servae statuas Boudiccae rosis ornant. Poetae fabulas multas et longas et bonas de Boudicca narrant. Boudicca philosophiam et historiam et geographiam amat.

Incolae Boudiccam amant quod Boudicca est regina bona et pulchra et valida.

Incolae Britanniae bene pugnant. Caesar et copiae ad Britanniam navigant. Boudicca et Caesar diu pugnant. Boudicca et incolae Britanniae multas copias necant. Igitur Caesar copias multas ex Roma ad Britanniam vocat. Copiae Romae ad Britanniam maturant. Tandem Caesar Boudiccam superat et necat. Britannia est provincia Romae. Caesar scholas multas et vias longas et statuas pulchras in Britannia aedificat.

Deae Romanae

Juno est dea Romana. Diana et Venus quoque sunt deae Romanae. Juno et Diana et Venus et Ceres et Proserpina sunt deae Romanae. Juno est regina dearum. Juno est clara et bona. Diana puellas bene curat. Diana fortunam bonam nautis dat. Diana quoque silvas et rosas amat. Venus est pulchra et clara. Venus fortunam bonam feminis multis dat. Ceres est dea antiqua et clara. Ceres agricolas bene iuvat. Filia est Proserpina. Proserpina est clara et pulchra. Ceres filiam claramet pulchram bene amat. Ceres et Proserpina terras et silvas et rosas bene amant et agricolas bene curant. Agricolae terrarum multarum Proserpinam bene amant et adorant.

Pluto Proserpinam ad terram infernam portat quod puellam amat. Dea Ceres misera est. agricolae non laborant et terra non bona est. Tandem Pluto Proserpinam agricolis dat et terra est bona et pulchra quod agricolae bene laborant. Aestate Proserpina est

cum agricolis et hieme est in terra inferna. Poetae fabulas multas et longas et bonas de Proserpina narrant. Etiam hodie fama dearum Romanarum est magna. Sed hodie in Italia incolae deas multas non adorant.

Familia Romana

Hodie fabulam novam narramus. Fabula est de familia Romana. Poeta novam et longam et bonam sic narrant. Familia Romana est laeta. Maritus est Brutus et matrona est Camilla. Brutus est beatus et Camilla est pulchra. Brutus et Camilla in villa magna et pulchra habitant. Filios et filias habent. Filii et filiae ad scholam ambulant. Magister est Sextus, vir severus. Sextus filios et filias familiae multae philosophiam et historiam et geographiam et litteras docet. Filii multi et filiae multae bene recitant. Sed filii pauci et filiae paucae male recitant. Sextus filios bonos et filias bonas laudat et filios malos et filias malas castigat.

Servi multi et servae multae sunt in villa Romana. Servi et servae bene laborant. Brutus et Camilla servos bonos et servas bonas bene curant. Sed servi pauci et servae paucae male laborant. Brutus et Camilla servos malos et servas malas castigat.

Brutus et Camilla deos multos et deas multas adorant

et ad templa saepe ambulant. Iuppiter est deus Romanus. Clarus et bonus est. Iuppiter fortunam bonam Bruto dat. Venus est dea Romana. Clara et pulchra est. Venus fortunam bonam Camillae dat. Dei Romani sunt boni et Romanos iuvant. Deae Romanae quoque sunt bonae et Romanas bene curant. Fama deorum Romanorum et deorum Romanarum est magna. Brutus et Camilla linguam Latinam recitant. Lingua Latina est antiqua et clara et pulchra. Nunc in schola linguam Latinam recitamus et semper laudabimus.

Mucius

Romani in magno periculo sunt quia Lars Porsenna, rex Etruscorum, Romam obsidet. Gaius Mucius, adolescens nobilis, quia auxilium patriae dare vult, in castra hostium penetrare et Porsennam necare constituit. Id consilium amico narrat. Amicus “Cur” rogat “id mihi dicis? Cur senatoribus consilium non aperis?” Mucius respondet : “Consilium senatoribus non aperio quia me prohibere possunt”. Amicus “Custodes Romani quoque” inquit “te prohibere possunt”. Mucius igitur senatoribus consilium aperit : “volo” inquit “in castra hostium penetrare et Porsennam necare”. Senatores primo dubitant. Mucius rogat : “quid dicti o senatores? Cur non assentitis?” “Dubitamus” inquit “quia nolumus te ad mortem mittere. Si tamen mortem non times, assentimus. “Videt turbam militum et duos viros ad mensam se entes, quorum unus pecuniam militibus dat. Mucius eum gladio necat. Is tamen non est Porsenna sed

scriba. Etrusci statim Mucium capiunt. Porsenna eum rogat : “Quis es? Cur id facis?” Mucius “Romanus sum” inquit “civis. Gaium Mucium me vocant. Venio ad castra Etruscorum quia te necare volo. Timeo nec mortem nec dolorem”. Prope regem est foculus in quo est ignis. Mucius manum dextram in ignem ponit. “Scis nunc, O rex, constantiam Romanorum. Sunt multi alii qui parati sunt te necare”. Porsenna Mucium liberat et brevi tempore Etruscos ab urbe Roma ducit. Romani Mucium laudant et Scaevolam vocant.

Discordia

In Graecia olim habitabat Peleus, vir validus et intrepidus et deis carus. Clamavit Iuppiter : “Thetis, dea marina, erit nupta Pelei”. Itaque Peleus, ubi nuptias suas celebravit, convivium magnum paravit. Ex Olympo descenderunt dei deaeque, et dona pulchra Peleo dederunt. Magnum erat gaudium Pelei nuptaeque suae. Sed deam Discordiam ad convivium non invitaverunt, nam in nuptiis discordia non grata est. Inde dea irata pomum aureum fabricavit et in turbam convivarum iactavit. Sic Discordia convivas ad rixam magnam excitavit, nam deae multae clamabant : “Meum erit pomum pulchrum, non tuum”, et ira animos dearum movit. Tandem deae Iuno et Minerva et Venus ad Olympum venerunt. “O Iuppiter”, inquiunt, “rixae nostrae arbiter eris, nam ob pomum aureum discordia magna est”. Sed Iuppiter sapientia magna “ In rixa ”, inquit, “ dearum magnarum arbiter non ero : Alexandrum, Priami filium, in terra videtis :

Alexandrum iubeo deam deligere et pomum aureum dare”. Itaque deae ex Olympo ad Alexandrum descenderunt.

Victoria Turpis

Livius, scriptor Romanus, de magistro Falisco fabulam narrat sed non indicat nomen eius magistri. Fortasse quia vir turpis est, Livius ei nomen non dat. Romani, bellum gerentes cum Faliscis, iam urbem Faliscam obsident. Falisci tamen, se tenentes intra muros urbis, Romanos non timent. Falisci habent magistrum qui filios ducum docet. Is pueros extra urbem ad agros ducere solet ubi pueri ludunt et se exercent. Magister eos cotidie paulo longius ex urbe Falisca ducit. Denique ad castra Romana et ad imperatorem Romanum, Camillum, pueros ducit. Tum magister se et pueros Camillo tradit. Magister “Romani” inquit, “quia iam filios ducum Faliscorum habent, urbem Faliscam in potestate habent”. Camillus sedens magistro respondit : “Romani non contra pueros sed contra milites pugnare solent. Non sic urbem Faliscam in potestate habere volunt; ea est turpis victoria. Romani armis, non perfidia, hostes vincunt”. Tum

Camillus iratus magistrum denudat, bacula pueris dat.
Pueri laeti magistrum, ad urbem Faliscam
ambulantem, baculis verberant. Romani spectant
pueros verberantes magistrum et magistrum nunc
ambulantem, nunc currentem. Brevi tempore Falisci ad
Romanos mittunt legatos qui pacem petunt.

دليل إعراب الأسماء
النوع الأول من الأسماء

الذي يتميز بالنهاية a مثل : hasta

الجمع	المفرد	حالة الإعراب
hast – ae	hast – a	فاعل ومنادى
hast – as	hast – am	مفعول به
hast – arum	hast – ae	مضاف إليه
hast – is	hast – ae	قابل
hast – is	hast – a	مفعول أداة

النوع الثاني من الأسماء

ما ينتهي بالنهاية us مثل : dominus

الجمع	المفرد	حالة الإعراب
domin – i	domin – us	فاعل
domin – i	domin – e	منادى
domin – os	domin – um	مفعول به
domin – orum	domin – i	مضاف إليه
domin – is	domin – o	قابل
domin – is	domin – o	مفعول أداة

ما ينتهي بالنهاية er – مثل : puer مذكر

الجمع	المفرد	حالة الإعراب
puer – i	puer	فاعل
puer – i	puer	منادى
puer – os	puer – um	مفعول به
puer – orum	puer – i	مضاف إليه
puer – is	puer – o	قابل
puer – is	puer – o	مفعول أداة

ما ينتهي بالنهاية er – مثل : ager مذكر

الجمع	المفرد	حالة الإعراب
Agr – i	Ager	فاعل
Agr – i	Ager	منادى
Agr – os	agr – um	مفعول به
Agr – orum	agr – i	مضاف إليه
Agr – is	agr – o	قابل
Agr – is	agr – o	مفعول أداة

ملاحظة : يسقط الحرف e من كلمة ager في جميع الأحوال ما
ما عدا الفاعل والمنادى المفردين .

ما ينتهي بالنهاية um - مثل : donum جماد

الجمع	المفرد	حالة الإعراب
don - a	don - um	فاعل
don - a	don - um	منادى
don - a	don - um	مفعول به
don - orum	don - i	مضاف إليه
don - is	don - o	قابل
don - is	don - o	مفعول أداة

النوع الثالث من الأسماء

1 - المذكر والمؤنث المتساوي المقاطع مثل hostis

الجمع	المفرد	حالة الإعراب
host - es	host - is	فاعل
host - es	host - is	منادى
host - es	host - em	مفعول به
host - ium	host - is	مضاف إليه
host - ibus	host - i	قابل
host - ibus	host - e	مفعول أداة

ملاحظة : لا حظ أن الأسماء التي تتكون من مقطع واحد وينتهي أصلها بحرفين
جامدين تعرب مثل hostis أى أن مضافها الجمع ينتهي بالنهاية ium مثل : (

, mons , mont - is) ينتهي بالحرفين n و t .

1 - المذكر والمؤنث غير المتساوي المقاطع مثل : consul , consul - is

الجمع	المفرد	حالة الإعراب
consules	consul	فاعل
Consules	consul	منادى
Consules	consulem	مفعول به
consulum	consulis	مضاف إليه
consulibus	consuli	قابل
consulibus	consule	مفعول أداة

ملاحظة : لاحظ أن الكلمات : patris pater , fratris frater , matris mater تعرب مثل :

consul أى أن مضافها الجمع ينتهي بالنهاية um - .

الجماد المتساوي المقاطع مثل : cubile , cubilis

الجمع	المفرد	حالة الإعراب
Cubilia	cubile	فاعل
Cubilia	cubile	منادى
Cubilia	cubile	مفعول به
Cubiliium	cubilis	مضاف إليه
Cubilibus	cubili	قابل
Cubilibus	cubili	مفعول أداة

ملاحظة : تعرب الكلمات الجماد التي تنتهي في الفاعل المفرد بالنهاية - al - أو er . مثل :

anim-al , ar-exempli على نهج cubile .

أى أن مفعول الأداة المفرد لهذه الأسماء ينتهي بالحرف I والفاعل والمنادى والمفعول به الجمع نهايتها ia - والمضاف إليه الجمع نهايته ium - ، مثال ذلك

الجمع	المفرد	حالة الإعراب
Animalia	animal	فاعل
Animalia	animal	منادى
Animalia	animal	مفعول به
Animalium	animalis	مضاف إليه
Animalibus	animali	قابل
Animalibus	animali	مفعول أداة

الجماد غير متساوى المقاطع مثل : corpus , corpor-is

الجمع	المفرد	حالة الإعراب
Corpora	corpus	فاعل
Corpora	corpus	منادى
Corpora	corpus	مفعول به
Corporum	corporis	مضاف إليه
Corporibus	corpori	قابل
Corporibus	corpore	مفعول أداة

النوع الرابع من الأسماء

1- الأسماء المذكر والمؤنثة

تنتهى بالنهاية us - مثل : exercitus

الجمع	المفرد	حالة الإعراب
exercitus	exercitus	فاعل ومنادى
Exercitus	exercitum	مفعول به
Exercituum	exercitus	مضاف إليه
Exercitibus	exercitui	قابل
Exercitibus	exercitu	مفعول أداة

1- الأسماء الجماد

تنتهي بالنهاية u - مثل : cornu

الجمع	المفرد	حالة الإعراب
cornua	cornu	فاعل ومنادى ومفعول به
Cornuum	cornus	مضاف إليه
Cornuibus	cornu	قابل
Cornuibus	cornu	مفعول أداة

النوع الخامس من الأسماء

تنتهي بالنهاية es - مثل : res

الجمع	المفرد	حالة الإعراب
r-es	r-es	فاعل ومنادى
r-es	r-em	مفعول به
r-erum	r-ei	مضاف إليه
r-ebus	r-ei	قابل
r-ebus	r-e	مفعول أداة

الصفات

الصفات التي تعرب إعراب النوع الأول والثاني للأسماء

bonus , bona , bonum

الجمع			المفرد			حالة الإعراب
جماد	مؤنث	مذكر	جماد	مؤنث	مذكر	
Bona	Bonae	Boni	bonum	bona	Bonus	فاعل
Bona	Bonae	Boni	bonum	bona	Bone	منادى
Bona	Bonas	Bonos	bonum	bonam	bonum	مفعول به
bonorum	bonarum	Bonorum	boni	bonae	Boni	مضاف إليه
bonis	bonis	Bonis	bono	bonae	Bono	قابل
bonis	bonis	Bonis	bono	bona	Bono	مفعول أداة

miser , misera , miserum

المفرد			حالة الإعراب
جماد	مؤنث	مذكر	
miserum	Misera	miser	فاعل
miserum	Misera	miser	منادى
miserum	Miseram	miserum	مفعول به
Miseri	Miserae	miseri	مضاف إليه
Misero	Miserae	misero	قابل
Misero	Misera	misero	مفعول أداة

الجمع			حالة الإعراب
جماد	مؤنث	مذكر	
MISERA	Miserae	miseri	فاعل
MISERA	Miserae	miseri	منادى
MISERA	Miseras	miseros	مفعول به
miserorum	miserarum	miserorum	مضاف إليه
Miseris	Miseris	miseris	قابل
Miseris	Miseris	miseris	مفعول أداة

piger , pigra , pigrum

المفرد			حالة الإعراب
جماد	مؤنث	مذكر	
PIGRUM	PIGRA	PIGER	فاعل
PIGRUM	PIGRA	PIGER	منادى
PIGRUM	PIGRAM	PIGRUM	مفعول به
PIGRI	PIGRAE	PIGRI	مضاف إليه
PIGRO	PIGRAE	PIGRO	قابل
PIGRO	PIGRA	PIGRO	مفعول أداة

الجمع			حالة الإعراب
جماد	مؤنث	مذكر	
PIGRA	PIGRAE	PIGRI	فاعل
PIGRA	PIGRAE	PIGRI	منادى
PIGRA	PIGRAS	PIGROS	مفعول به
PIGRORUM	PIGRARUM	PIGRORUM	مضاف إليه
PIGRIS	PIGRIS	PIGRIS	قابل
PIGRIS	PIGRIS	PIGRIS	مفعول أداة

الصفات التي تعرب إعراب النوع الثالث للأسماء مثل :

fortis , forte

الجمع			المفرد			حالة الإعراب
جماد	مؤنث	مذكر	جماد	مؤنث	مذكر	
FORTIA	FORTES		FORTE	FORTIS		فاعل ومنادى
FORTIA	FORTES		FORTE	FORTEM		مفعول به
FORTIUM	FORTIUM		FORTIS	FORTIS		مضاف إليه
FORTIBUS	FORTIBUS		FORTI	FORTI		قابل
FORTIBUS	FORTIBUS		FORTI	FORTI		مفعول أداة

acer , acris , scre

الجمع			المفرد			حالة الإعراب
جماد	مؤنث	مذكر	جماد	مؤنث	مذكر	
ACRIA	ACRES	ACRES	ACRE	ACRIS	ACER	فاعل ومنادى
ACRIA	ACRES	ACRES	ACRE	ACREM	ACREM	مفعول به
ACRIUM	ACRIUM	ACRIUM	ACRIS	ACRIS	ACRIS	مضاف إليه
ACRIBUS	ACRIBUS	ACRIBUS	ACRI	ACRI	ACRI	قابل
ACRIBUS	ACRIBUS	ACRIBUS	ACRI	ACRI	ACRI	مفعول أداة

ingens

المفرد			حالة الإعراب
جماد	مؤنث	مذكر	
INGENS	INGENS	INGENS	فاعل ومنادى
INGENS	INGENTEM	INGENTEM	مفعول به
INGENTIS	INGENTIS	INGENTIS	مضاف إليه
INGENTI	INGENTI	INGENTI	قابل
INGENTI	INGENTI	INGENTI	مفعول أداة

الجمع			حالة الإعراب
جماد	مؤنث	مذكر	
INGENTIA	INGENTES	INGENTES	فاعل ومنادى
INGENTIA	INGENTES	INGENTES	مفعول به
INGENTIUM	INGENTIUM	INGENTIUM	مضاف إليه
ingentibus	Ingentibus	Ingentibus	قابل
ingentibus	Ingentibus	Ingentibus	مفعول أداة

vetus

الجمع			المفرد			حالة الإعراب
جماد	مؤنث	مذكر	جماد	مؤنث	مذكر	
VETERA	VETERES	VETERES	VETUS	VETUS	VETUS	فاعل ومنادى
VETERA	VETERES	VETERES	VETUS	VETEREM	VETEREM	مفعول به
VETERUM	VETERUM	VETERUM	VETERIS	VETERIS	VETERIS	مضاف إليه
VETERIBUS	VETERIBUS	VETERIBUS	VETERI	VETERI	VETERI	قابل
VETERIBUS	VETERIBUS	VETERIBUS	VETERE	VETERE	VETERE	مفعول أداة

DICTIONARY

LATIN – ARABIC

قاموس لاتيني / عربي

. A .

A . = Aulus , - i أولوس

8 = ante قبل **: a . Chr . n .** قبل ميلاد المسيح

a (a b) من : عن + (حرف جر + مفعول الأداة

abdo , is , abdidi , abditum , abdere أخفى (3)

abduco , is , abausi , abductum , أخلص ، احرر ، أبعده (3)

abeo , is , abii , abitum , abire abducere أرحل ، ابعده (4)

abiectus , a , um متغاضى عن **abicio** (صفة من)

abstineo , es , abstinui , امتنع عن ، أعانى عن

abstentum , - ere (2) (متعدى ولازم)

absum . es , fui , esse أكون غائبا ، أكون بعيدا (+ القابل) (لازم)

ac واو العطف

accedo , is , - cessi , - cessum , - cedere اقترب

accipio , is , - cepi , - ceptum , - ere اقبل ، اتسلم

Acco , - onis أككو (مذكر)

accuso . as , avi , atum , are (1) اتهم

acer , acris , acre حاد ، عنيف

acerbitas , atis حدة ، صرامة ، خشونة مؤنث

acerbus , a , um غير ناضج ، حاد ، حامض

acervs , - I كومة

action , - onis عمل ، فعل مؤنث

acumen , inis

طرف مدبب ، دهاء جماد

acutus , a , um

حاد الطرف ، مدبب

ad

إلى ، صوب ، نحو (حرف جر + المفعول به)

adduco , is , duxi , ductum , ere ad

أقود إلى +

adeo

هكذا ظرف

adeo , is , ii , itum , ire (4)

اتقدم ، اتناول ، أظهر

adnibeo , es , ui , itum , ere (2)

استعمل ، أطبق

adimo , is , ami , amium , ere (3)

اسحب ، آخذ بعيد

adipiscor , eris , adeptus sum , adipisci (dep) (3)

اصل ، احصل على

aditus , us

اقتراب ، دخول مذكر

adiungo , is , iumxi , iunctum , ere (3)

اضم ، الحق ، أضيف

admirabilis , e

عجيب ، بديع ، مدهش

admirer , aris , atus sum , ari (dep.) (1)

أعجب ب ، استحسن ، أدهش

admoneo , es , ui , itum , ere (2)

انصح ، اذكر

admonition , onis

تحذير ، انذار ، تنبيه مؤنث

adopto , as , avi , atum , are (1)

تبني

adorior , iris , ortus sum , iri (dep.) (4)

هاجم

adporto as , avi , atum , are (1)

انقل ، احمل

adsum , es , affui , adesse

أكون حاضرا ، أكون قريبا (+ القابل) (لازم)

adulation , onis

ياء مداهنة ، تملق مؤنث

adulescens , entis		شاب ، يافع
adulescentulus , a , um		فتى ، صبي ، صغير السن
aduncus , a , um		معقوف ، مقوس ، أحذب
advenio , venis , veni , ventum , ire (4)		أصل ، أبلغ (لازم)
adventus , us		وصول (مذكر)
adversaries , a , um		خصم ، معارض ، معترض ، مقاول
adversum		في مواجهة ، ناحية (ظرف)
adversus		في مواجهة / ناحية (ظرف)
aedes , is		منزل ، معبد ، قصر مؤنث
aedifico , as , svi , atum , ere (1)		أشيد ، ابني
Aegates , ium		جزر ايجانيس ، غرب صقلية مؤنث
aegrotus , a , um		مريض
Aeneadae , arum		رفاق اينياس (مذكر)
Aeneas , ae		اينياس (مذكر)
aequalis , e		مساو ، معادل ، ند ، نظير
aequitas , atis		مساواة
aequus , a , um		مساو ، معادل ، نظير
aequites , atis		مساواة
aequus , a , um		مسا ، معادل ، نظير
aer , aeris	مفعول به	AEREM . AERA (مذكر) هواء
aerumns . ae		محنة ، خطب ، ضيق ، شدة (مؤنث)
aesopus , - i		ايسوبوس (مذكر)

aestimo , as , avi , atum , are (1)	اقدّر ، اعتبر
aatas , atis	سن ، عمر (مؤنث)
aeternus , a , um	خالد ، ابدى
aether , eris	اثير ، هواء (مذكر)
affero , fers , tuli , lastum , ferre	احضر ، أجب
afranius , ii	افرانوس (مذكر)
afri , orum	الافريقيون (مذكر)
africanus , a , um	افريقي
ager , agri	حقل (مذكر)
agnosco , is , agnovi , agnitum , ere (3)	اعترف ، اتعرف على
ago , is , egi , actum , ere (3)	اعمل ، اسوق ، ادفع ، ادير
agricola , ae	فلاح (مذكر)
aiax , aiacis	أياس (مذكر)
aio , ais	اقول نعم ، اقول فعل ناقص
ala ,	جناح (مؤنث)
alacritas , atis	حماس ، حرارة القلب ، حيوية
albani , orum	الالبانيون ، سكان مدينة البالونجا (مذكر)
albinus , - i	من مدينة البالونجا
albus , a , um	ابيض
alcibiades , - is	الكبياديس (مذكر)
alexander , - ari	الاسكندر (مذكر)
alfenus , - i	الفينوس (مذكر)

alibi	في مكان آخر (ظرف)
alienus , a , um	آخر ، غريب
aliquanto	نوعا ما ، نجد ما (ظرف)
aliqui , aliqua , aliquod	شخص ما . أحد ضمير مبهم
aliqui , aliqua , aliquid	شخص ما ، أحد
aliquot	بعض (مبني)
alius , alia , aliud	آخر (ضمير)
allecto	اليكتو (واحدة من آلهات العذاب الثلاثة) (مؤنث)
allobroges , - um	اللوروبوجيس (قبيلة من بلاد الغال) (مذكر)
alloquor, eris ,locutus sum, loqui (deb) (3)	اتحدث إلى (مؤنث)
alnus , - i	شجرة الجور (مؤنث)
alo , is , alui , aitum , ere (3)	اغذى ، أربى ، أطعم
alte	عاليا (ظرف)
alter , a , um	آخر (ضمير)
altilis , e	طائر
altus , a , um	عالى ، عميق
ambiorix , igis	امبيوركس (اسم علم)
amicus , a , um	صديق
amitto , is , misi , missum , ere (3)	افقد

amble	بصورة ، واسعة ، أكثر (ظرف)
amblius (amble)	رحب ، فسيح ، واسع (افعال تفضيل)
ancus , i	انكيس (اسم علم) (مذكر)
andronicus , i	اندرونيكوس (اسم علم) (مذكر)
angais , is	ثعبان ، حب (مذكر ومؤنث)
angustus , a , um	ضيق
anima , ae	روح ، نفس ، حياة (مؤنث)
animal , alis	حيوان (جماد)
animus , i	عقل ، شعور ، قلب ، نفس (مذكر)
annotatus , a , aum (annotare)	مقيد ، مسجل ، مدون
anser , eris	أوزة (مذكر ومؤنث)
ante	قبل ، أمام حرف جر + مفعول به
antea	من قبل ، قبل ذلك (ظرف)
antigenes , is	انتيجينيس (مذكر)
antiquitas , atis	آثار ، عادات (مؤنث)
antiquitus	قديم ، فيما مضى (ظرف)
antuquus , a , um	قديم ، عتيق
antoninus , i	انطونينوس (مذكر)
antonius , i	انطونيوس (مذكر)
antrum , i	كيف ، مغارة (جماد)
anulus , i	خاتم ، حلقة (مذكر)
anus , us	عجوز (مؤنث)

aber , abri	خنزير برى (مؤنث)
aberio , is , aberui , abertum ire (4)	افتح
abis , is	نحلة
abollo , inis	ابوللو (اله الشمس) (مذكر)
abbareo , es , barui , ere (2)	ابدو ، أظهر
abbaratus , us	اعداد ، تجهيز (مذكر)
abbello , as avi , atum , are (1)	ادعو ، أسمى
abbello , is , buli , bulsum , ere (3)	اقدم ، اقرب ، أرسى
abbeto , is , ivi (ii) , itum , ere (3)	ارغب ، ابتغى ، اذهب تجاه
abbrobo , as , av , atum , are (1)	اوافق
abto , as , avi , atum , are (1)	اوفق ، اطابق ، أعد ، أجهز
abud	عند ، لدى ، بالقرب من حرف جر + مفعول به
aqua , ae	ماء (مؤنث)
aquila , ae	نسر
arabs , arabis	عربى
arbiter , tri	حكم ، وسيط ، فاصل (مذكر)
arbitrium , ii	حكم ، قرار (جماد)
arbitror , aris , atus aum , ari (deb) (1)	أظن
arbor , oris	شجرة (مؤنث)
arboreus , a , um	شجرى ، خاص بالأشجار ، تعريش (صفة)

arbustum , i	مزرعة (جماد)
archias , ae	ارخيا (مذكر)
ardor , oris	حرارة ، حمية ، نار ، عاطفة (مذكر)
arduus , a , um	شاق ، عسير ، متعب ، عال
argentum , i	فضة (جماد)
argi , orum	مدينة ارجوس ، فى البليوينيز (مذكر)
argolicus , a , um	ارجوليكي ، من ارجوس
argumentum , i	جدل ، مناظرة ، محاورة (جماد)
ariovistus , i	أريوفستوس (مذكر)
aristides , is (i)	اريستيديس (مذكر)
ariatoteles , is	ارسطو (الفيلسوف المشهور) (مذكر)
arma , orum	اسلحة ، معدات حربية (جماد جمع)
armatus , a , um	مسلح
armo , as , avi , atum , are (1)	اسلح ، أزود
aro . as , avi , atum , are (1)	أحرث
arria , ae	أريا (مؤنث)
ars , artia	فن (مؤنث)
artes , ium	أعمال فنية (مؤنث جمع)
artus , us	طرف ، عضو (مذكر)

arva , orum	حقول (منزرعة) (جماد جمع)
arverni , orum	الارفرنيون
ascendo , is , acendi , scensum , ere	أصعد ، اطلع (3)
asclabo , onis	اسكلابو (طبيب شيشرون) (مذكر)
asber , era , erum	خشن ، عاق
asberitas , atis	حدة ، خشونة ، فظاظة (مؤنث)
assentator , oris	مداهن ، منافق ، متملق (مذكر)
assequor , eris , secutus sum , sequi	ادرك ، الحق (3)
assiduus , a , um	(deb.) مجد ، مجتهد ، مثابر
athenae , arum	مدينة اثينا (مؤنث وجمع)
atheniensis , is	اثيني ، من اثينا (صفة)
athilius , ii	اثيليوس (مذكر)
atlas (atlans) antis	أطلس (مذكر)
atque	و ، أيضا (حرف ربط)
atrebas , atis	اتريباس (مذكر)
atrox , ocis	شرير ، اثيم ، شنيع ، فظيع (صفة)
attica , ae	اتيكا ، (الاقليم الذى تقع فيه اثينا) (مؤنث)
atticus , i	اتيكوس (مذكر)
auctoritas , atis	سلطة ، قدرة ، نفوذ (مؤنث)
audens , entis (audeo)	جسور ، وقح صفة من

audeo , es , ausus sum , ere (2)	أجرؤ ، أتجرأ على
audio , is , ivi , itum , ire (4)	اسمع ، أنت
aufero , fers , abstull , ablatum , auferr	انزع ، اخلع
aufidius , ii	أوفيدروس (مذكر)
augeo , as , auxi , auctum , augere (2)	ازود ، أنمى
auguatus , i	أوغسطس (مذكر)
aureas , a , um	ذهبي ، من الذهب
aurum , i	ذهب (معدن) (جماد)
aut	أو (حرف ربط)
autem	لكن ، ومع ذلك (ثاني كلمة في الجملة) (حرف ربط)
autumnus , i	خريف (فصل الخريف) (مذكر)
auxilior , aris , atus sum , ari (deb.) (1)	أساعد ، اعين
auxilium , ii	مساعدة ، (جماد)
auxilia , iorum	امدادات حربية (جماد جمع)
avaritia , ae	شح ، بخل (مؤنث)
avarus , a , um	بخيل ، شحيح
aveo , es , ere	أسلم (تستعمل عادة في صيغة الأمر)

avena , ae	شوفان ، مزمار ، الراعى (مؤنث)
avis , is	طائر ، فال (مؤنث)
avus , i	جد (مذكر)

- B -

bacchus , i	ب خوس ، ابن جوبيتر وسمبلى (مذكر)
balbus , i	بلبوس (مذكر)
bandusia , ae	باندوسيا (ينوع فى فيللا هوراس) (مؤنث)
barberus , a , um	غريب ، اجنبى ، بربرى
bassianus , i	بأسيانوس (مذكر)
beatus , a , um	سعيد
belgium , ii	بلجيكا (جماد)
bellum , i	حرب (جماد)
benedico, is, dixi, dictum, ere (3)	اتكلم بصورة طيبة = (لازم + الفعل)
Beneficium , ii	كسب ، ربح ، منفعة (جماد)
beneficus , a , um	محسن ، خير ، جواد ، شفوق
beneventum , i	بينيفنتوم (جماد)
benevolentia , ae	جود ، كرم ، احسان (عمل الجرم مؤنث)
benevolua , a , um	محسن ، خير ، انسانى

bestia , ae حيوان ، بهيم (مؤنث)

bibo , is , bibi , ere (3) أشرب

bini , ae , a اثنين اثنين (صفة عددية)

bis مرتين (ظرف)

blandior , iris , itus sum , iri (deb) (4) لاطف داعب ، ادهن (قابل + لازم)

blandus , a , um خداع ، مداعن ، ملاطف

bocchus , i بوككوس (ملك موريتانيا) (مذكر)

bonum , i الخير (جماد)

bonus , a , um طيب ، جيد ، حسن

bos , bovis ثور ، بقرة (مؤنث ومذكر)

brachium , ii ذراع (جماد)

brevis , e قصير

- C -

c . = caius جايوس

cado , is , cecidi , ere (3) اسقط ، انتهى ، اغرب

caducus , a , um ساقط ، منحدر ، ضعيف ، عاجز ، واهن

caecus , a , um أعمى ، كفيف

caedo , is , cecidi , caesum , ere (3) أقطع ، اقتل

caelum , i سماء (جماد)

caesar , aris قبصر (اسم علم) (مذكر)

calamitas , atis مصيبة ، نكبة ، دمار (مؤنث)

calcar , aris	منحس ، ميماز (جماد)
calchas , antis	كالخاس ، عراف طروادة المشهور (مذكر)
caligula , ae	كاليجولا (مذكر)
callidus , a , um	ماكر ، محتال ، خادع
calbumia , ae	كالبورنيا (زوجة قيصر) (مؤنث)
camillus	كاميلوس ، اسم مشهور في عائلة furia (مذكر)
cambester , stris , stre	مسطح ، مستو
candidus , a , um	ابيض ، صاف ، نقي
canis , is	كلب ، كلبه (مؤنث ومذكر)
cannae , arum جمع مؤنث جمع canna , ae	عصا ، قصبه ، بوصه (مؤنث)
	كانناى قرية فى أبوليا مشهورة بالمعركة التى انتصر فيها هانيبال على الرومان 216 ق . م .
cano , is , cecini , cantum , ere (3)	اعزف ، اغنى
canto , as , avi , atum , are (1)	اغنى
cantus , us	غناء ، عزف (مذكر)
capella , ae	عنزة ، ماعز (مؤنث)
cabio , is , cebi , cabtum , ere (3)	آخذ ، انتقى
cabtivus , a , um	سجين ، مسجون
cabut , cabitis	رأس ، عاصمه ، منبع (جماد)
caracalla , ae	كاراكللا
carinus , i	كارينوس (مذكر)
caritas , atis	حب ، احسان ، بر (مؤنث)

carmen , inis	اغنية ، انشودة ، قصيدة (جماد)
carbus , i	كاربوس (مذكر)
carthaginiensis , a	قرطاجني ، من قرطاجه
carthago , inis	قرطاجنه (مدينة) (مؤنث)
casa , ae	كوخ ، منزل (مؤنث)
cassius , ii	كاسيوس (مذكر)
ceatellum , i	حسن ، قلعة (جماد)
castor , oris	كاستور (اسم علم) (مذكر)
castra , orum	معسكر (جماد جمع)
casula , ae	كوخ صغير (مؤنث)
catena , ae	سلسلة ، رباط ، لجام (مذكر)
catilina , ae	كاتيلينا (اسم علم) (مذكر)
cato , onis	كاتو (اسم علم) (مذكر)
catullus , i	كاتوللوس (اسم علم) (مذكر)
catulus , i	كلب صغير (مذكر)
causa , ae	سبب (مؤنث)
cavo , as , avi , atum , are (1)	احفر ، انقب ، انبش
cedo , is , cessum , ere (3)	اذهب ، استسلم (لازم)
celeber , bris , bre	مشهور ، شهير
celer , eris , ere	مسرع ، سريع
celeritas , atis	سرعة (مؤنث)
celeriter	بسرعة ، عاجلا (ظرف)

cella	مخزن ، صومعة (مؤنث)
censeo , es , ui , censum , ere (2)	احكم أفضى ، افصل ، اقدر ، اعتبر
census , us	تعداد ، احصاء ، خراج (مذكر)
centum	مائة
centuria , ae	التقسيم المئوى (تقسيم مكون من مائة) (مؤنث)
cera , ae	شمع (مؤنث)
cerebrum , i	مخ ، عقل ، فهم (جماد)
cerno , is , cretum era (3)	افصل ، اميز ، ادرك ، اقرر
certamen , inis	معركة ، قتال (جماد)
certe	بالتأكيد (ظرف)
certus , a , um	مؤكد ، واثق
cesso , as , avi , atum , are (1)	أؤجل ، أؤخر
ceterus , a , um	آخر ، باقى
chabrias , ae	خايرياس ، قائد اثينى مشهور مذكر
chr . = christus	المسيح
christus , i	المسيح (مذكر)
chrysanthus , i	خريسانثوس (اسم علم) (مذكر)
cimon , onis	كيمون (اسم علم) (مذكر)
cingetorix , igis	كنجيتوركس (مذكر)

circiter	بالقرب من ، حول (ظرف)
circum	حول "حرف جر + المفعول به = ظرف
circumdo , as , dedi , datum , dare (1)	أحيط ، أحاصر
circumeo , is , ii , (ivi) , itum , ire	أدور حول ، أحيط
cito	بسرعة (ظرف)
civilis , e	مدنى ، سياسى
civis , is	مواطن ، مواطنة (مذكر ومؤنث)
civitas , atis	دولة ، أمه ، حقوق المواطنة (مؤنث)
clam	سرا (ظرف وحرف جر + مفعول الأداة)
clarus , a , um	شهير ، مشهور
classiarus , a , um	اسطولى ، خاص بالاسطول
classis , is	اسطول (مؤنث)
claudius , s , um	كلوديوس (من عشيرة claudia)
claudus , a , um	اعرج
clavis , is	مفتاح (مؤنث)
clemens , entis	وديع ، لطيف ، رحيم
clodius , ii	كلوديوس (اسم علم) (مذكر)
clorus , i	كلوروس (مذكر)
cn - = cnaeus , i	جنايوس (مذكر)
cocus , coquus , i	طباخ ، طاهى (مذكر)
codrus , i	كودروس (ملك اثينى) (مذكر)
coepi , coebtum , coebisse	بدأت فعل ناقص

coerceo , es , ui , itum , ere (2)	اتمنطق ، اغلق ، ارغم ، اضغط على
coercitio , onis	ممانعة ، اجبار ، قسر ، غصب (مؤنث)
cognitio , onis	فكر ، قصور ، رأى (مؤنث)
cogaomen , inis	لقب (اسم عائلة) ، كنية (جماد)
cognosco, is, cognovi , cognitum , ere (3)	اغرف ، اعلم
cogo , is , coegi , coactum , ere	ارغم ، ادفع (+مصدر)
chors , tis	كتيبة ، فيلق عسكر ، جناح (مؤنث)
cohortatio , oni	حث ، حصن ، نصح ، إرشاد مؤنث
cohortor , aris , atus , sum , ari , (deb) (1)	أحث ، انصح ، اشجع ، ارشد
collatinus , i	كوللاتينوس (مذكر)
collaudo , as , avi , atum , are (1)	امدح ، اثني على
collega , ae	زميل ، رفيق (مذكر)
collis , is	تل (مذكر)
colloco , as , avi , atum , are (1)	اضع
colloquium , ii	محادثة ، محاوراة ، حديث (جماد)
coho , is , colui , cultum ere	اعتنى به ، أزرع ، أبجل ، أعبد (3)
colonus , i	مزارع ، فلاح (مذكر)
cohor , oris	لون (مذكر)
comedo , is , edi , esum , ere , (3)	ابتلع ، أكل
comes , it is	رفيق ، صاحب (مذكر ومؤنث)
comitas , atis	أدب ، ود ، لطف (مؤنث)
comitor , aris , atus , sum , ari (deb)	أصاحب ، ارافق
connemore , as , avi , atum , are (1)	اذكر

commendatio , onis	توصية (مؤنث)
commendo , as , avo , atum , are (1)	أنتمن ، أوصى
commiseror , aris , atus sum ari (deb)	انتحب ، أرثى
committo , is , misi , missum , ere (3)	اعمل ، أقوم بـ ، اقترف
commius , ii	كومبيوس (اسم علم) (مذكر)
commodum , i	راحة ، رفاهية (جماد)
commodus , i	كومودوس ، (اسم علم) (مذكر)
commoveo , es , movi , motum , ere (2)	أؤثر
communio , is , ivi , itum , ire , (4)	أحصن
consector , aris , atus sum , ari (deb) (1)	اتبع ، اتبع
conservo , as , avi , atum , are (1)	احفظ ، أصون ، انقد
consido , is , sedi , sessum , ere (3)	اقف ، اتوقف
consilium , ii	نصيحة ، خطة ، قرار (جماد)
consisto , is , stiti , ere (3)	اقف
consolatio , onis	سلوى ، عزاء ، مواساة (مؤنث)
consolor , aris , atus sum eri (deb)	اشجع ، اعز (1)
constans , - ntis	مستمر ، متواصل ، راسخ
constantinus , I	قنسطنطين (اسم علم) (مذكر)
constantfus , ii	قنسطنطوبوس (مذكر)
constituo , is , stitui , stitutum , ere (3)	اقرر
consuetudo , inis	عادة (مؤنث)
consul , is	قنصل (مذكر)

consularis , e

قنصلى

consuletus , us

قنصلية (مذكر)

consumo , is , sumbtum , ere

استهلك ، استنفذ

contamino , as , avi , atum , are (1)

الوث ، اتلف

contemno , is , embsi , embtum , ere (3)

احتقر ، اقلل من شأن اتغاضى عن

contemblor , aris , atus sum , ari (deb .)

أتأمل ، اتدبر (1)

contembtio , onis

احتقار (مؤنث)

contra

ضد (ظرف وحرف جر + المفعول به)

controversia , ae

اختلاف ، معارضة (مؤنث)

contumelia , ae

سب ، شتيمة ، اعتداء ، اهانة ، اساءة (مؤنث)

convenio , is , veni , ventum , ire (4)

اتقابل . الاقى ، اتفق

cobia , ae

وفرة ، كثرة (مؤنث)

cobiae , arum

قوات حربية

cor , cordis

قلب (جماد)

coriolanus , i

كوربولانوس (مذكر)

corioli , orum

كوربولى (مدينة فى لايتوم) (مذكر)

cornelia , ae

كورنيليا (مؤنث)

cornu , us

قرن ، جناح (الجيش) (جماد)

corbus , oris

جسم ، جسد (جماد)

corrumbo , is , rubi , rubtum , ere (4)

اتلف ، أفسد ، أحطم

corruo , is , rui , ere (3)

اسقط ، اهدم ، أتدهور

corrubtus , a , um	(اسم مفعول من corrumbo)	فاسد ، تالف
corsica , ae		كورسيكا (مؤنث)
cortex , icis		لحاء الشجر ، قشر (مذكر ومؤنث)
corvus , i		عراب (مذكر)
cotidie		يوميًا ، كل يوم (ظرف)
cras		غدا (ظرف)
crassus , i		كراسسوس (اسم علم) (مذكر)
creber , bea , brum		مزدحم ، متكرر
credo , is , didi , ditum , ere		اعتقد ، أتق ب (+ القابل)
cresco , is , crevi , cretum , ere		انمو ، ازداد (لازم)
crimen , inis		خطأ ، جريمة ، اثم (جماد)
crisbus , i		كروسيوس (اسم علم) (مذكر)
crito , onis		كريتون (مذكر)
croesus , i		فارون (اسم علم) (مذكر)
cruciatuS , us		عذاب ، عقاب (مذكر)
crudelis , e		قاسى ، فظ ، غليظ القلب
cultus , us		ثقافة (مذكر)
cultus , a , um		منزوع
cum		مع حرف جر + مفعول الأداة
cum	عندما ، حينما ، لأن ، حيث أن حرف ربط مع الصيغة الإخبارية والمصدرية	
cum ... tum		أما ... أو ، ليس فقط .. بل أيضاً =
cunctator , oris		مذكر

	متعدد (مثل q.fabius maximus فى الحرب البونية الثانية
cunctor , aris , atus sum ari (dep) (1)	أتلکأ , اتردد , أتاخر لازم
cunctus , a , um	كل , جميع (صفة)
cupio , is , ivi , (ii) itum , ere	أريد , أرغب فى , أبغى
cur	لماذا (ظرف استفهامى)
curia , ae	قسم من أقسام مدينة روما الثلاثين , مقر السيناتو مؤنث
curius , ii	كوريسوس (اسم علم) (مذکر)
curo , as , avi , atum , are – (1)	اعتنى به , اهتم به
cursor , oris	كورسوم (اسم علم) (مذکر)
cursus , us	طريق , خط سير (مذکر)
custodio , is , ivi , itum , ire (4)	احتفظ , أصون , احرس
custos , odis	حارس (مذکر , ومؤنث)
cybela , ae	سبيلاً (ألاهه) (مؤنث)
cyrus , i	قورش (مذکر)

- D -

d = decimus	ديكيموس
damnatio , onis	إدانة , حكم , عقوبة (مؤنث)
damnosaus , a , um	مخرب , مدمر
damnum , i	ضرر , خسارة , تلف (جماد)
damocles , is	داموكليس (اسم علم) (مذکر)

dantes , is	دانتي (اسم علم) (مذكر)
dardanis , ae	دردانيا و طروادة (مؤنث)
datames , is	دتاميس (ستراب فارسي) (مذكر)
de	من , عن , حول (حرف جر + مفعول الأداة)
dea , ae	الاهة (مؤنث)
deambulo,a, avi,atum,are(1)	اتنزة , اتريض , أتمشي (لازم)
debeo , es , ui , itum , ere	يجب على (+ المصدر)
decem	(2) عشرة (عدد غير معرب)
decens entis	رحيم , جواد , لطيف , أنيق
decerno , is , crevi , cretum , ere (3)	أقرر
decimus , a , um	العاشر
decipio,is,cepi,captum,ere (3)	أخدع , أغش , أدهش , أفاجي
decius , ii	ديكيوس (اسم علم) (مذكر)
declamo,as,avi,atum,are (1)	أصيح , أنشد (متعدي و لازم)
decretum , i	قرار , موسوم (جماد)
decuria , ae	مجموعة من عشرة , قسم , طبقة (مؤنث)
deditio , onis	تسليم , استسلام (مؤنث)
deerro,as,avi,atum,are (1)	أزوغ , أنحرف , أنشتت (لازم)
defendo,is,fendi,fensum,fendere (3)	أحمى , أذافع عن
defensor , oris	مدافع , حامى (مذكر)
defero,fers,tuli,latum, ferre	أحمل ثانية , أحمل عائداً
dehortor,aris,atus sum,ari(dep.)(1)	أعوق , أثنى (عن), أعدل عن
deinde	بعد ذلك , ثم (ظرف)

deioterus, i	ديوتاروس (ملك جالاتيا) (مذكر)
delecto,as,avi,atum,are (1)	اتلذذ , أفرح , أسر
delectus, us	اختيار , انتقاء (مذكر)
deleo,es,evi,etum,ere (2)	ادمر , أخرج
delidero,as,avi,atum,are (1)	أقرر , أتأني , اتروى , أتداول
dementia , ae	حمافة , جبل , رعونة , جنون (مؤنث)
democritus , i	ديموكريتسوس (فيلسوف يوناني) (مذكر)
demosthenes , is	ديموستينيس
demum	النهاية , أخيراً (ظرف)
deni , ae , a	عشرة لكل واحد
denique	في النهاية , أخيراً (ظرف)
depopulor,aris,atus sum,ari (1)	اجتاج , اقتحم
descendo,is,scensum,ere (3)	اهبط , انزل , انحدر (لازم)
desertus , a , u	اترك , أهجر , مهجور , متروك
desidero,as,avi,atum,are (1)	ارغب , ابتغى , أشعر بالحاجة
desilio,is,silui,suitum,ire (4)	أقفز
desisto,is, stiti ,ere (3)	اكف عن , أتخلى عن
desum,es,fui,esse	انقص , أكون غير موجود (+ القابل) (لازم)
deucalion , onis	ديوكاليون (مذكر)
deus , dei	إله , رب (مذكر)
devoro,as,avi,atum, are (1)	التهم , ازدرد , ابتلع
dexter , era , erum	أيمن
dico, as , avi , atum , are (1)	أكرس , أخصص

dico , is , dixi , dictum , ere (3)	أتكلم , أقول
dictator , oris	دكتاتور , حاكم مطلق (مذكر)
dedo , onis	ديدو , مؤسسة قرطاجنة (مؤنث)
dies , diei	يوم , نهار , فى المفرد مذكر ومؤنث وفى الجميع مذكر فقط
differo,fers,distuli,diliatum,ferre	اختلف
difficulter	بصعوبة (ظرف)
digitus , i	مصبع (مذكر)
dignitas , etis	مكانة , مهابة , وقار
diligens , entis	نشط , مجتهد , طيب السريرة
diligenter	بنشاط , بهمة (ظرف)
diligo , is , lexi , lectum , ere (3)	أحب , أقدر
dimico , as , avi , atum , are (1)	أصارع , أنزل , أحارب
dimitto , is , misi , missum ere (3)	أرسل , أمر
diocletienus , i	ديوكليتيانوس (مذكر)
dion , onis	ديون (اسم علم) (مذكر)
dionyaius , ii	ديونيسيوس , طاغية سرقسطة (مذكر)
discedo , is , cessi , cessum , ere (3)	أرحل
disciplina , ae	نظام , تعليم (مؤنث)
discipula , ae	طالبة , تلميذة (مؤنث)
discipugus , i	طالب , تلميذ (مذكر)
disco , is , didici , ere (3)	أتعلم , أدرس
displiceo , es , ui , itum , ere (2)	أحزن , أعتم , أتكدر
disputatio , onis	جدال , خصام , نزاع مشاجرة (مؤنث)
dissero , is , serui , sertum , ere (3)	أتناقش (لازم)
dissideo , es , sedi , seeeum , ere	أشذ , ارفض , أخالف

dissimulo , as , avi , atum , are (1)	أخفى , استتر , أكتتم
disto , as , are	أبعد , أكون بعيداً
ditis , is	ديتيس (مذكر)
diuturnus , a , um	مستمر لمدة طويلة , دائم
dives , divitis	غنى , ثرى (صفة)
divido, is , divisi , divisum , ere (3)	أقسم , أفضل , أجزا
divitiae , arum	غنى , ثروة (مؤنث جمع)
do , das , dedi , datum , dare (1)	أعطى
docec , es , docui , doctum , ere (2)	أعلم
docilitas , atis	القدرة على التعلم , شفقة , رأفة , طيبة
doctrina , ae	مذهب , عقيدة , رأى , فن (مؤنث)
doctus , a , um	متعلم , خبير , مجرب
dolabella , ae	دولابلا (صهر شيشرون)
dolor , oris	ألم , حزن (مذكر)
domesticus , a , um	أنيس , أليف , لطيف , هادئ
domicilium , ii	منزل (جماد)
dominor, aris, atus sum, ari (dep.) (1)	أسيطر , أتسلط , أشرف (لازم)
dominus , i	سيد (مذكر)
domitius , ii	دوميشوس (مذكر)
domus , us	منزل (مؤنث)
dono , as , avi , atum , are	أهب , امنح
dormio , is , ivi , (ii) , itum , ire (4)	أنام
dos , dotis	مهر , صداق , بائة , منحة (مؤنث)

draco , onis	ثعبان (مذكر)
drusus , i	دروسوس (مذكر)
dubito,as , avi , atum , are (1)	أشك , أتردد (لازم ومتعدى)
ducenti , ae , a	مئتان لكل واحد
ducentesimus , a , um	المائتين
ducenti , ae , a	مئتان
duco, is , duxi , ductum , ducere (3)	أقود , أرشد , أعتبر
duilius , ii	دويليوس (مذكر)
dulcis , e	حلو , عذب , عزيز , لطيف
dum	بينما , أثناء , لغاية (حرف ربط)
duo , duae , duo	اثنان
duodecim	اثني عشر
duodevicesimus , a , um	الثامن عشر
duodeviginti	ثمانية عشر
dux , ducis	قائد (مذكر)

- e -

e , ex	من (حرف جر + مفعول الأداة)
ebrius , a , um	سكران , ثمل
eburones , um	الابورونيون (شعب من بلاد الغال) (مذكر)
edo , is , edi , esum , ere (3)	أكل , التهم , ازدرد
edo , is , edidi , editum , edere (3)	أخرج , أنشر , أنتج
effectus , us	تحقيق , إنجاز , إتمام , تأدية (مذكر)
effectus , a , um	تام , منجز (اسم مفعول من efficio)

efficio , is , feci , fectum , ere (3)	أعمل , اتيمم , أكون
effodio , is , fodo , fossum , ere (3)	أنقب , أنبش
egnatius , ii	اجناتىوس (مذكر)
ego	أنا (ضمير المتكلم)
egredior,eris,gressus sum,gredi(dep.)(3)	انزل , أهبط (لازم)
egregie	باحترام , بتبجيل (ظرف)
egregius , a , um	ممتاز , محترم , مبجل
eheu	آه (أداة تمجيب للدلالة على الألم)
ecicio , is , ieci , iectum , ere (3)	أخرج , أطرد , أشنت
elegantia , ae	أناقة , رشاقة (مؤنث)
elephantus , I	فيل (مذكر ومؤنث)
elephas , antis	فيل (مذكر)
eligo , is , legi , lectum , ere (3)	أختار , أنتخب , أنتقى
eloouengia , ae	فصاحة , بلاغة (مؤنث)
eluceo , es , luxi , gucere (2)	اتلاء , تألق , المع
eminens , entis	بارز , ملحوظ , جليل (صفة)
emitto , is , misi , misum , ere (3)	أخرج , أصدر , أعبّر عن
enim	لأن , اذ أن (حرف ربط ثانى كلمة)
eo	هناك (بعيداً) (فى الجملة ظرف)
eo , is , ivi , (ii) , itum , ire	أذهب
epeminondas , ae	ابامينونداس (اسم علم) (مذكر)
ephorus , i	الايفور (أحد القضاة الاسبرطيين الخمسة) (مذكر)

epulum , i	وليمة , مأدبة (جماد)
eques , it is	فارس (مذكر)
equester , stris , stris	فروسي , خاص بالفرسان
equidem	حقاً , بدون شك (ظرف)
equus , i	حصان (ح)
erga	تجاه , نحو صوب (حرف جر + المفعول به)
eripio , is , rigui , retum , ere (3)	أنزع , أخلع , أنهب
erudio , is , ivi , itum , ire (4)	أعلم , أتقف , أدرس
esurio , is , ivi , ire (4)	أجوع , أشعر بالجوع
et	واو العطف (حرف ربط)
etiam	أيضاً , الأخرى , العكس (حرف ربط)
eurielus , i	ارياالوس (مذكر)
eregito , es , avi , atum , are (1)	أثيره أضطهد , أعذب , أظلم
exardesco, is, arsi, arsum, ere (3)	أتوهج , أتاجج , التهب
exaudio , ivi , itum , are (4)	اسمع بوضوح , أنصت إلى
excellens , antis	ممتاز , فائق
excito , as , avi , atum , are (1)	أثير , أحث , أوقظ , أشجع
excogito, as, avi, atum, are (1)	استنبط , أنبر , أفكر , أتصور
excrucio , as , avi , atum , are (1)	أعذب
exemplar , aris	مثال , نموذج (جماد)
exemplum , i	مثل , عبرة (جماد)
exeo , is , ii , itum , ire	أخرج , أرحل
exercitus , us	جيش (مذكر)
exiguus , a , um	قصير , قليل
eximius , a , um	ممتاز , فائق , شهير

existimo , as , avi , atum , are (1)	أظن , أقدر أعتبر
exitus , us	محنة , وفاة , نهاية , مخرج , مصب (مذكر)
exior,eris,ortus,sum,iri (dep	اتفجر , ابع , ابع (لازم 3)
exoro , as , avi , atum , are (1)	التمس , أتضرع , أتوسل
exerior,iris,expertus,sum,irim(dep.)(4)	اجرب , اختبر , أفحص
expers , ertis	ناقص , فاقد , معفى , مستثنى (صفة)
expleo,es,plevi,pletum ,ere (2)	أكمل , املاء , أتم
explico,as,plicavi,(plicui)plicatum(plicitum)ere	اشرح , اروى , اخلص
expono ,is , positum , ere (3)	انزل , أبدأ
expugno , as , avi , atum , are (1)	اطرد , أكتسب بالقوة
expsctatio , onis	أظهر , ترقب , انتظار , رغبة , ابتغاء
exspecto , as , avi , atum, are (1)	انتظر , أتوقع
	اطفأ , اخمد , اقتل , أمحق
	exstingno,is,stinxi,stinctum,ere(3)
exsulto,as,avi,atum,are (1)	أرقص , أطرب , أبتهج
extendo,is,tendi,tentum,(tensum)ere(3)	أبسط , أمد , أوسع
extra (exterus , a , um)	خارجي ظاهري , غريب
extra	فى الخارج (ظرف حرف جر)
extraho,is,traxi,tractum,ere (3)	استخلص , استخرج , انتزع
extremus , a , um , (exter	نهائى , آخر (صفة مبالغة تفضيل من
- f -	
fabius , i	فابيوس (مذكر)
fabula , ae	قصة , أسطورة (مؤنث)
facies , ei	شكل , وجه (مؤنث)

facilis , e	سهل , يسير (صفة)
facinus , oris	جريمة , أثم , عمل (جماد)
facio , is , feci , factum , ere (3)	أعمل , أفعل
factio , onis	حزب (مؤنث)
factum , I	فعل , عمل (جماد)
facultas , atis	فرصة , قدرة , كفاءة (مؤنث)
facundia , ae	فصاحة , بلاغة , بيان , سلاسة (مؤنث)
facundus , a , um	فصيح , بليغ , سلس الحديث , طلق اللسان
fagus , i	شجرة الزان (مؤنث)
falisci , orum	الفالسكيون (مذكر جمع)
falso	بصورة زائفة , بخداع , يغش (ظرف)
fama , ae	شهرة , سمعة (مؤنث)
fames , is	جوع (مؤنث)
familia , ae	عائلة , عشيرة (مؤنث)
familiaris , e	مألوف , عادي , ودود (صفة)
familiaritas , atis	ألفة , مودة , صداقة , رفع التكليف (مؤنث)
fanum , i	معبد , محراب (جماد)
fas	الحلال , المسموح به (جماد غير معرب)
faterr , eris , fassus sum , eri (deb) (2)	اعترف , أقر
fatum , i	قضاء , قدر , حظ , نصيب (جماد)

faveo, es, favi, fautum, ere, (2)

افضل ، اميز ، اقدم ، امنع (لازم + القابل)

favor , oris

فضل ، معروف ، رعاية ، حظوة (مذكر)

felicitas , atis

حظ ، سعادة ، نجاح (مؤنث)

felix , icis

سعيد ، موفق (صفة)

femina , ae

امرأة ، انثى (مؤنث)

fera , ae

حيوان مفترس ، وحش ضارى (مؤنث)

fere

تقريباً ، حوالى (ظرف)

ferinus , a , um

حيوانى ، وحشى

ferio , is , ire (4)

اقرع ، أخبط ، أضرب

fero , fers , tuli , latum , ferre

أحمل ، أحتمل

ferox , ocis

قوى ، متوحش ، كاسر (صفة)

ferrum , I

حديد ، قسوة ، ضراوة (جماد)

ferus , a , um

متوحش ، كاسر ، ضارى

fetus , us

ميلاد ، ولادة ، نتاج (مذكر)

fidelis , e

صادق ، أمين ، مخلص (صفة)

fidenates , ium

الفيديناتيون (مذكر جمع)

fides , ei

ثقة ، عقيدة (مؤنث)

fido , is , fissus sum , ere

أثق به ، أأتمن

filia , ae

أبنة (مؤنث)

filius , ii

ابن (مذكر)

fi ngo, is, finxi, fictum, ere (3)	أشكل , أصور , أدعى , أتصنع
fiio , is , ivi , itum , ire (4)	أتم , أنجز , أنهى
finis , finis	حد , نهاية (مذكر)
fines , ium	أراضى , أقليم (مذكر جمع)
fio , is , factus sum , fieri	أصبح , أصير
firmo , as , avi , atum , are (1)	أقوى , أحصن , أدم
firmus , a , um	قوى , سليم الجسم
flagelium , i	سوط , كرباج (جماد)
flagrans , antis	ساطع , متلاء , متوهج , بهى , بهيج
flamma , ae	لهب , سعير (مؤنث)
	أحنى , أخفف , أهدئ , أهدئ , أهدئ
	flecto, is, flexi, flexum, ere, (3)
fleo , es , flevi , fletum , ere (2)	أبكى , أنتحب
fletus , us	بكاء , نحيب (مذكر)
florentia , ae	فلورنسا (مؤنث)
floreo , es , ui , ere (2)	ازدهر
fluctus , us	موجة (مذكر)
flumen , inis	نهر (جماد)
fodio , is , fodi , fossum , ere (3)	أنقب , أنبش
foedus , a , um	قدر , وسخ
foedus , eris	معاهدة , اتفاق (جماد)
fons , fontis	نبع , ينبوع , أصل , منبع (مذكر)
(for) , faris , fatus sum , fari (dep)	اتكلم , أقول لازم
foris , is	باب , مدخل (مؤنث)

foris	فى الخارج (ظرف)
forma , ae	شكل , هيئة , جمال (مؤنث)
formosus , a , um	جميل
forsitan	ربما , من الجائز (ظرف)
fortasse	ربما , من الجائز (ظرف)
fortis , e	شجاع (صفة)
fortiter	بشجاعة (ظرف)
fortitudo , inis	قوة , حيوية , نشاط (مؤنث)
fortuna , ae	خط , نصيب , ثروة (مؤنث)
fragilis , e	هش , ضعيف , قابل للكسر (صفة)
fraus , fraudis	خداع , غش , تدليس (مؤنث)
frenum , i	لجام , فرمله (جماد)
frequens , entis	متكرر , كثير الحدوث , شائع (صفة)
frons , frondis	ورق شجر (مؤنث)
frons , frontis	جبهة , وجه
frugifer , fera , ferum	خصيب , مثمر
frumentarius , a , um	قمحى , خاص بالقمح , أو الغلال
frumentum , i	قمح , غلال (جماد)
fruor,eris,fruitus,(fructus)sum,frui(dep)(3)	اتمتع , اتلذذ (لازم +مفعولالأداة)
fuga , ae	هرب , قرار (مؤنث)
fugax , acis	وجل , خائف , مرتاع , مذعور , جبان , هارب (صفة)

fugio , is , fugi , fugitum , ere (3)	أهرب
fugo , as , avi , atum , are (1)	أطارِد , أُنْفادى
fulgeo , es , fulsi , ere	اتلاء , ألع (لازم)
fundamentum , i	أساس (جماد)
fundo , as , avi , atum , are (1)	أشيد , أؤسس
fundo , is , fudi , fustum, ere (3)	أحب , أُدفع , أنثر , أطارِد
fungor,eris,functus,sum,fungi(dep)(3)	أعمل , أؤدى
furius , ii	قوربوس
furor , aris , atus sum , ari , (dep.) (1)	أسرق
furor , oris	حقن , حبه , المزيِد , حماقة , رعونة , جنون (مذكر)

- g -

galerius , ii	جاليريوس (مذكر)
gallus , i	جاللوس (مذكر)
gallus , i	ديك (مذكر)
ganymedaeas , is	جانيميديس (مذكر)
gaudeo , es , gavisus sum , ere (2)	اتمتع , اتلذذ
gaudium , ii	فرح , سرور (جماد)
gelidus , a , um	بارد , مثلج
gellius , ii	جيليوس (مذكر)
generosus , a , um	سخى , كريم , جيد
genitus , a , um (gigno	مولود من , ناشئ من , ناتج (من)
gens , gentis	قبيلة , أمة (مؤنث)
genu , us	ركبة (جماد)

genus , eris	جنس , نوعه , شعب , عائلة (جماد)
gergovia , ae	جوجوفيا (مدينة فى بلاد الغال) (مؤنث)
germana , ae	أخت شقيقة (مؤنث)
germani , orum	الجرمانيون (مذكر جمع)
gero , is , gessi , estum , ere (3)	أقوم به , أدير , أحمل
geryon , onis	جيرون (وحش ذو ثلاث أعين) (مذكر)
gigno , is , genui , genitum , ere (3)	المسامع
gladius , ii	سيف (مذكر)
gloria , ae	شهرة , مجد (مؤنث)
glorior,aris,atus sum,ari,(dep.)	اتباهى , ازهو , اغتر (لازم)
grachi , orum	الاخوين جراكوس (مذكر جمع)
graecia , ae	بلاد اليونان (مؤنث)
graecus , a , um	يونانى , إغريقى
grammatica , ae	علم النحو والصرف (مؤنث)
grendaevus , a , um	عجوز , كبر السن
gratia , ae	محبة , جميل , شكر (مؤنث)
gratulatio , onis	ابتهاج , فرح , تهنئة (مؤنث)
gratus , a , um	مقرباً لجميل , مقبول , مرض مرحب به
gravis , e	هام , خطير (صفة)
graviter	بصورة خطيرة , صورة هامة (ظرف)
gregarius , a , um	تابع , نفر , جندى عادى
grex , gregis	قطيع , سرب (مذكر)
guberno , as , avi , atum , are (1)	أحكم , أدير

gutta , ae

نقطة , قطرة , دمعة (مؤنث)

- h -

habeo , es, ui , itum , ere (2)

أملك , اعتبر

habitus , us

عادة , أسلوب , طبيعة , تصرف (مذكر)

haedui , orum

الهيديون (مذكر جمع)

haedus , i

ماعز , عنزة , جدى صغير (مذكر)

hannibal, is

هانيبال (اسم علم) (مذكر)

haadrubal, alis

هامد روبال (اسم علم) (مذكر)

hector , oris

هكتور (بطل طروادة) (مذكر)

hedera , ae

لبلاب , نبات (مؤنث)

heliogabalus , i

هليوجيلوس (مذكر)

hellespontus , i

هلسبونديوس (الدردنيل) (مذكر)

helvetii , orum

الهلفيتيسون (مذكر جمع)

heraclitus , i

هيراكليتوس (فيلسوف يونانى) (مذكر)

herba , ae

عشب , حشيش (مؤنث)

herculus , ii

هيركولبوس (اسم أطلق على الامبراطور ماكسيميانوس) (مذكر)

heres , edis

وارث , وريث (مذكر ومؤنث)

herodes , is

هيروديس (مذكر)

hesiodus , i

هسيود (شاعر يونانى مشهور) (مذكر)

heu

آه (أداة تعجب)

hic , haec , hoc

هذا , هذا (اسم إشارة)

hic

هنا , فى هذه اللحظة (ظرف)

hiemo , as , avi , atum , are (1)

اقضى الشتاء

hiems , hiemis	شتاء (مؤنث)
hierro , onis	هيرو , حاكم سرقسطة (مذكر)
hispania ,ae	أسبانيا (مؤنث)
hispanus , a , um	أسباني
historia , ae	تاريخ , حكاية (مؤنث)
historicus , a , um	تاريخي
hodie	اليوم (ظرف)
hodie , a , um	يومي , فعلى , مطابق الواقع
homerus , i	هوميروس (شاعر اليونان العظيم) (مذكر)
homo , inis	إنسان (مذكر)
honesto , as , avi , atum ,are	أشرف , أبجل , أزين , أجمل (1)
honor,as,avi,atum,are (1)	أشرف , أبجل , أكافء , أجازى
honos (honor) , oris	شرف , تقدير (مذكر)
horatius , ii	هوراس (مذكر)
horreo , es , ui , ere (2)	أقشعر , أرتعد , أرتجف
horreum , i	مخزن قمح (جماد)
horribilis , e	مرعب , مخيف (صفة)
horror , oris	فزع , هلع , رعب (مذكر)
hortor,aris,atus sum,ari (dep.)(1)	أنصح , أحث , أشجع
hortus , i	حديقة (مذكر)
hospes , itis	ضيف , غريب (مذكر)
hostilis , e	عدو , خصم (صفة)
hostis , is	عدو (مذكر)
humanitas , atis	حضارة , مدينة (مؤنث)

humilis , e

وضيع , حقير , واطئ (صفة)

- i -

iaceo , es , iacui , ere (2)

أضطجع , استلقى , أموت

iacio , is , ieci , iactum , ere (3)

أقذف , أرمى

iacto , as , avi , atum , are (1)

أقذف , أنشر , أثير

iam

الآن , أخيراً (ظرف)

idi

هناك (ظرف)

ida , ae

أيدا (سلسلة جبال) (مؤنث)

idem , eadem , idem

نفس , عين (صفة تعيين)

idoneus , a , um

ملائم لـ , مناسب لـ

ieiunium , ii

صيام , نظام للتغذية (جماد)

iesus

المسيح (مذكر)

igitur

على ذلك , إذن (ثاني كلمة في الجملة) (ظرف)

ignarus , a , um

جاهل بـ (+مفعول إليه)

ignavia , ae

كسل خمول (مؤنث)

ignis , is

نار (مذكر)

ignominia , ae

اساءة , إهانة , تكدير , عار (مؤنث)

ignobilis , e

مجهول , غير معروف , مخزى (صفة)

ignorentia , ae

عبا , جهل , عدم خبرة (مؤنث)

ignosco, is, ignovi, ignotum, ere (3)

أعفو عن , لازم + القابلي (3)

ille , illa , illud

ذلك (اسم إشارة)

illigo , as avi

اربط , أوجد , أجبر , الزم

atum , are

أضبط على (1)

illyricus , a , um

الليريكوس , من الليريا

imego , inis

صورة , طيف (مؤنث)

imitor , aris , atus , sum , ari (dep.) (1)	أقلد , أحذو حدو
immanitas , atis	قسوة , فظاظة , غلظة (مؤنث)
immemor , oris	غير ذاكِر ل (+المضاف إليه) (صفة)
immineo , es , ere – (2)	أوجب , أخص , أتعلق
immolo , as , avi , atum , are (1)	أذبح , أضحي
immortalis , e	خالد , أبدى (صفة)
immunis , e	معفى , مستثنى , حر , أنانى (صفة)
impatiens , entis	غير متسامح , صلب الرأى , غير قادر , غير أهل
impavidus , a , um	باسل , جرى , مقدام
impedio , is , ivi , itum , ire , (4)	أعرقل , أعطل , أعوق
imperium , ii	حكم , سلطنة , قوة , نفوذ (جماد)
impero , as , avi , atum , are (1)	أطلب , آمر (+ القابل)
impertio , is , ii (ivi) , itum , ire (4)	أمنح , أوزع
impetro,as,avi, atum, are (1)	أحصل على , أتبع , أبلغ , أحوز
impiger , - pigra , - pigrum	نشط
impius , a , um	ملحد , كافر , مشرك , أثيم
importunus , a , um	فى غير أوانه , مزعج , غير ملائم , غير مناسب
improbus , a , um	شرير , سئ , ظالم , جائز , متعسف
in	إلى (حرف جر + المفعول به)
in	فى , على (حرف جر + مفعول الأداة)
incertus , a , um	غير مؤكد , مشكوك فيه
incertum , i	شك , ريبة , عدم تأكد (جماد)
inchoo , as , avi , atum , are (1)	أبدأ
incito , as , avi , atum , are (1)	أحث , أخض , أثير

incliatus , a , um	مائل , مناسب , وافق , فى صالح
inclino , as , avi , atum , are (1)	أميل إلى , أنحنى
inclitus , a , um	مشهور , بارز , لامع , جليل , ممتاز
incola , ae	ساكن , قاطن (مذكر ومؤنث)
inconmodum , i	قلق , عدم راحة , إزعاج (جماد)
inconstanter	انقطاع , بدون ثبات , بصورة غير راسخة (ظرف)
incredibilis , e	غير ممكن تصديقه , فوق المعقول , غير معقول
incuria , ae	استهتار , تهاون , إهمال (مؤنث)
indico , as , avi , atum , are (1)	أرشد إلى , أشير إلى , أكشف
indico, is, dixi, dictum, ere (3)	أخبر , أعلن , أشرت , أرفض , أقرر , أظهر (3)
indigeo, es, ui, ere (2)	احتاج ل (لازم + المضاف إليه) (2)
indignor, aris, atus sum, ari (dep.) (1)	ازدرى , أحتقر (متعدى ولازم)
indignus , a , um	غير جدير بـ (+ مفعول الأداة)
induigentia , ae	تسامح , تساهل , عفو
induo , is , dui , dutum , ere (3)	ألبس , أدر
industria , ae	نشاط , اجتهاد , همة , صناعة (مؤنث)
indutiomarus , i	انتدوتيوماروس (قائد بربرى) (مذكر)
ineluctabilis , e	لا مفر منه , لا مناص منه , محتم (صفة)
ineo , is , ii , itum , ire	أدخل , أبدأ
inermis , e	غير مسلح (صفة)
inertia , ae	كسل , خمول
infandus , a , um	لا يمكن قوله , لا يمكن التعبير عنه
inferi , orum	العالم السلى , عالم الموتى (مذكر جمع)
inferior , ius	ردئ , خسيس , وضع , أفعال تفضيل
infestus , a , um	عدو , مزعج , مقلق , مخرب
infimus , a , um	رعيد , بسيط , رخيص , ضئيل مبالغة تفضيل

infirmus , a , um	ضعيف , عليل
ingenium , ii	ذكاء , عبقرية (جماد)
ingens , entis	ضخم , هائل (صفة)
ingenuus , a , um	حر , شريف
incio , is , ieci , ictum , ere (3)	أضغط , أوثر , أدخل بالقوة
incimicus , a , um	عدو
iniquus , a , um	ظالم , جائز , غير عادل
initium , ii	بداية , أصل (جماد)
iniuria , ae	ظلم , خطأ (مؤنث)
iniuste	بصورة , ظالمة (ظرف)
iniustus , a , um	ظالم , جائز
innocena , entis	غير مذنب , برئ , غير مؤذى (صفة)
inops , opis	معوز , معدم (صفة)
inquam , inquis , inquit	أقول (فعل ناقص)
inquino , as , avi , atum , are	لوث , دنس , وسخ (1)
insequor,eris,secutus sum,sequi (dep.)	ابتع (3)
insidiae , arum	شرك , فخ , كمين , مكيدة (مؤنث جمع)
insignis , e	بارز , فائق , رائع , ممتاز (صفة)
insitus , a , um	طبيعي , فطري , أصلي
insolitus , a , um	غريب , غير مألوف , غير عادي
instans , ntis	متشدد , مصر , ملح (صفة)

instituo, is, stitui, stitutum, ere	أضعى , أشيد , أكفل (3)
instruo, is, struxi, struotum, ere	ابنى أعد , اخطط
insula , ae	جزيرة (مؤنث)
insum , es , fui , esse	أكون بالداخل
integer , graegrum	كامل تام , نقى
intellego , is , lexi , lectum , ere (3)	أدرک , أفهم
intemperentia , ae	نقلب , عدم , ثبات (مؤنث)
inter	بين , أثناء (حرف جر + المفعول به)
intereo , is , ii , itum , ire	أهلك , أموت
interficio , is , feci , fectum , ere (3)	اقتل , أدمر
interitus , us	موت , دمار (مذکر)
interrex , regis	حاكم , وصى على العرش (مذکر)
interrogo , as, avi , atum , are	أسأل , أستسلم , أطلب
intersum , es , fui , esse	أحضر , أشهد , اشترك
intestinus , a , um	داخلى , باطنى
intimus , a , um	عميق , سرى
intolerabilis , e	غير محتمل (صفة)
intus	بالداخل (ظرف)
inutilis , e	غير مفيد , غير نافع (صفة)
invenio , is , veni , ventum , ire (4)	أجد , أكتشف
invictus , a , um	لا يقهر , لا يهزم
invideo , es , vidi , visum , ere (2)	أحسد لازم + القابل
invidia , ae	حسد , غيرة , كره (مؤنث)
invidus , a , um	حسود , غيور

invisus , a , um	مكروه , بمغوض , كريبه
iocor,aris,atus,sum,ari(dep.)	امزح , أذاعب (لازم ومتعدى)
iocosus , a , um	مازح , ماجن , مهزار
iohannas , is	يوحنا (مذكر)
iovianus , i	يوحنا (امبراطور روماني) (مذكر)
iphicrates , is	أفبكراتيس (قائد اثيني) (مذكر)
ipse , a , um	نفس (صفة توكيد)
ira ,ae	غضب , غيظ , ضجر
iracundia , ae	نزق , سرعة الغضب (مؤنث)
irascor,eris,iratus sum,irasci(dep.)(3)	اتكدر , أغضب , (لازم + القابل)
is , ea , id	هو , هي (اسم إشارة وضمير)
iste , ista , istud	ذاك (اسم إشارة)
ita	هكذا (ظرف)
itaque	وهكذا , وعلى ذلك (حرف ربط)
et ita	وهكذا
iter , itineris	رحلة , طريق , سفر (جماد)
iterum	مرة ثانية , مرة أخرى (ظرف)
iubeo , es , iussi , iussum , err (2)	أمر (المصدر)
iucunditas , atis	فرح , مرح , خفة الروح (مؤنث)
iucundus , a , um	فرح , مرح , خفيف الروح
iudex , icis	قاضى (مذكر)
iudicium , ii	محكمة , قضية , دعوى , شكوى , انذار (جماد)
iudico , as , avi , atum , are (1)	اعتبر , أقدر , أحكم , أظن
iugum , i	نير , رق (العبودية) (جماد)
iugurtha , ae	أيوجورثا (كلك نوميديا) (مذكر)

iulianus , i	يولييانوس (مذكر)
iulius , ii	يوليوس (مذكر)
iunior , oris (iuvenis	أصغر , أقل سناً (أفعل تفضيل من
iunius , ii	يونيوس (مذكر)
iuno , onis	جونو (مؤنث)
iuppiter , iovis	جوبيتر (مذكر)
iuro , as , avi , atum , are	أقسم , أحلف اليمين لازم (1)
ius , iuris	قانون , سلطة (جماد)
iusiurandum , - i	حلف اليمين , قسم (جماد)

iusti tia , ae	عداله , إنصاف (مؤنث)
iustus , a , um	عادل , منصف , ملائم
iuvenis , is	صغير السن , شاب (مذكر ومؤنث)
iuventa , ae	شباب , صغر السن (مؤنث)
iuventus , utis	شباب , صغر السن (مؤنث)
iuvo , as , iuvi , iutum , are	أساعد , أعين

– I –

l. = lucius	لوكيوس
labor , oris	عمل , جهد (مذكر)
laboro,as,avi,atum,are (1)	أعمل , اجتهد (لازم ومتعدى)
lac , lactis	لبن (جماد)
lacedaemon , monis	أسبرطة (مؤنث)
lacedaemonius , a , um	اسبرطى , من اسبرطة
lacero , as , avi , um , are (1)	أمزق , أقطع
lacus , us	بحيرة (مذكر)

laedo , is , laesi , laesum , ere	أتعدى على , أضر أذى
laetitia , ae	فرح , سرور , سعادة (مؤنث)
laetor,aris,atus,sum,ari (dep.)(1)	ابتهج , أفرح , أطرب (لازم)
largior,iris , itus sum , iri(dep)(4)	أمنح , أعطى أودى(4)
lateo , es , ui , ere	اختفى , اختبئ , أفر , أهرب (لازم ومتعدى)(2)
latro , onis	لص , سارق (مذكر)
latro , as , avi , atum , are	انبح , أعوى (لازم ومتعدى)
laudatio , onis	مدح , ثناء
laurus , i	شجرة الغار (شجر أوراقه رمز الفوز والنصر) (مذكر)
lavinium , ii	لافينيوم (مدينة فى إقليم لاتيوم) (جماد)
laxo,as,avi,atum,are	أفرد , أبسط أنشر , أهدئ (لازم ومتعدى)(1)
legatus , i	ضابط , سفير , مندوب (مذكر)
legio , onis	فرقة
lego , is , legi , lectum , ere	أقرأ , أختار , أجمع (3)
lenio, is, ivi, intum , ire	أهدئ , أسكن (متعدى ولازم) (4)
lenis , e	هادئ وديع , لطيف (صفة)
leonidas , ae	ليونيداس (مذكر)
leontinus , a , um	من ليونتيني (مدينة فى صقلية)
lidens , entis	فرح , مسرور (صفة)
libenter	بكل سرور , عن طيب خاطر (ظرف)
liber , era , erum	حر , طليق
liber , libri	كتاب (مذكر)
liberalis , e	كريم , سخى , حر (صفة)
liberalitas , atis	كرم , سخاء , رقة (مؤنث)

liberi , orum	أطفال , أولاد (مذكر جمع)
libero , as , avi , atum , are (1)	أحرر , أطلق سراح
libertas , atis	حرية (مؤنث)
libido , inis	رغبة شديدة , شهوة , نزوة (مؤنث)
licet,licuit,licitum est,ere(2)	يجوز ,يسمح ب(+المقابل)(لازم غير شخصى)(2)
licinius , ii	ليكينىوس (مذكر)
licitor , oris	لكتور (موظف مهمته أفساح الطريق للحاكم الرمانى فى الاحتفالات العامة)(مذكر)
ligures , um	ليجورىس (مذكر)
limen , inis	عتبة الباب , منزل , مدخل (جماد)
limus , i	وحل , طين (مذكر)
lineamentum , i	محيط , دائرة , سطر , خط , طريق
lineamenta	حدود , مخططات (جمع وجماد)
lingua , ae	لسان , لغة (مؤنث)
littera , ae	حرف هجاء (مؤنث)
litterae , arum	رسالة , آداب (مؤنث جمع)
litterula , ae	حرف صغير (مؤنث)
litus , oris	شاطئ , ساحل (جماد)
livius , ii	ليفىوس (اسم علم) (مذكر)
locuples , pletis	ثرى , غنى (صفة)
locus , i	مكان (مذكر)
loca , orum	(جمع)
lolium , ii	زوان , زهرة الزنيق (موسن) (جماد)
longe	بعيداً , بصورة طويلة (ظرف)
longinquus , a , um	بعيد , قاصى , واسع الارجاء , مترام الأطراف

longitudo , inis	الطول (مؤنث)
longus , a , um	طويل , بعيد
loquax , acis	كثير الكلام , ثرثار , سهل الحديث
loquor,eris,locutus sum,loqui(dep.)(3)	اتكلم (لازم ومتعدى)(3)
lucania , ae	لوكانيا (مؤنث)
luceo , es , luxi , ere (2)	اتلاء لاء , أتألق
lucretia , ae	لوكرتيا (مؤنث)
luctus , us	ألم , حزن (مذكر)
ludo,is,lusi,lusum,ere	ألعب , أمزح , أحتقر (لازم ومتعدى)(3)
ludus , i	لعب , مشهد , منظر (مذكر)
lumen , inis	ضوء , نور (جماد)
lusus , us	لعب , تسلية (مذكر)
lutatius , ii	لوثاتيوس (مذكر)
lux , lucis	نور , ضوء (مؤنث)
luxus , us	ترف , رخاء (مذكر)
lysander , dri	ليساندر (قائد اسبرطي) (مذكر)
lysimachus , i	ليسيماخوس (قائد مقدوني) (مذكر)

- m -

m. = marcus	ماركوس
m. = manius	مانيوس
m =	ألف (عدد)
maccdo , onis	مقدوني , من مقدونيا (صفة)
maereo,es,ere—(2)	أتألم , أشكو , أبكى , أحزن على , انتخب (لازم ومتعدى)
maestus , a , um	حزين , كئيب , مغموم
magis	أكثر (أفعال تفضيل) (ظرف)

magister , stri	مدرس , رئيس (مذكر)
magistratus , us	حاكم , وظيفة حاكم (مذكر)
magnitudo , inis	حجم , ضخامة (مؤنث)
magnus , a , um	كبير , عظيم
mago , onis	ماجو (قائد قرطاجنى) (مذكر)
maior , maius , magnus	أفعل تفضيل من
maiores , um	اسلاف , أجداد (مذكر جمع)
maledicus , a , um	سفيه , بذي , تمام
malesuadus , a , um	مفر , مغو , ناصح غير أمين
malevolus , a , um	حسود , حاقد , سئ النية
malo , malis , malui , malle	أفضل , استحسن
malum , i	الشر (جماد)
malus , a , um	ردئ , سئ , شرير
mandatum , i	واجب , فرض , عمل (جماد)
mando , as , avi , atum , are (1)	أعهد إلى , أسند إلى , أأتمن
maneo,es , mansi , mansum , ere (2)	أبقى , أمكث , أقيم
manipulus , i	شرذمة رومانية (120 أو 60 جندياً) حفنة , قبضة (مذكر)
manlius , ii	مانليوس (مذكر)
mansuefacio, is, feci, factum, ere (3)	أجعل , وديعاً أو رقيقاً
manus , us	يد , جماعة (مؤنث)
marcellus , i	ماركللوس (مذكر)
marcius , ii	ماركيوس (مذكر)
mare , is	بحر (جماد)

maritimus , a , um	بحرى
maritus , i	زوج (مذكر)
mars , martis	مارس , حرب (مذكر)
martius , a , um	خاص يمارس
martius , ii	شهر مارس (مذكر)
mater , tris	أم (مؤنث)
matrimonium , ii	زواج , قران (جماد)
matrona , ae	سيدة نبيلة (فى المجتمع الرومانى) (مؤنث)
matureo , as , avi , atum , are	اهرع , أسرع (متعدى ولازم)
matutinus , a , um	صباحى , مبكر
maxentius , ii	ماركسينيوس (امراطور رومانى) (مذكر)
maxilla , ae	فك , الفك الأسفل (مؤنث)
maxime	خصيصاً , بنوع خاص , بصورة رئيسية (ظرف)
maximus , i	ماكسيموس (مذكر)
medicina , ae	طب , فن الطب (مؤنث)
medicus , i	طبيب (مذكر)
meditor,aris,atus sum,ari(dep.)(1)	انعكس ارتد , أتأمل أ أتروى (متعدى ولازم)(1)
medius , a , um	متوسط , وسط
medulla ,ae	نخاع العظم (مؤنث)
mel , mellis	عسل النحل (جماد)
memini , isti , isse	أتذكر , أذكر (فعل ناقص لازم ومتعدى)
memor , oris	ذاكر لـ (+ المضاف إليه)
memoria , ae	ذاكرة (مؤنث)
memoro,as,avi,atum,are (1)	اذكر : أتذكر (متعدى ولازم)
menapii , arum	المينايبون (بعض سكان بلاد الغال)
mens , mentis	عقل (مؤنث)

mensis , is	شهر (مذكر)
mentior,iris,itus sum,iri(dep.)(4)	أكذب , أفترى , أدعى , أنظاهر
mercator , oris	تاجر (مذكر)
mercurius , ii	ميركوريوس (مذكر)
mereo , es , ui , itum , ere (2)	استحق
mereor , eris , itus sum, eri (dep.)	استحق
stipendia , merere	أتقدم للخدمة العسكرية
mergo , is , mersi , mersum , ere (3)	اغمر , أغرق , أسقط
meritum , i	استحقاق , فضل (جماد)
merum , i	نبيذ نقى (صافى) (جماد)
messis , is	حصاد , جمع المحصول (مؤنث)
metior , iris , mensus sum , iri (dep.)(4)	أقيس
metuo , is , ui , utum , ere (3)	أخاف , أخشى
metus , us	خوف (مذكر)
meus , a , um	لى (صفة ملكية لضمير المتكلم المفرد)
migro , as , avi , atum , are (1)	أهاجر , أرحل , أنرح
miles , itis	جندى (مذكر)
milesius , a , um	مبليس , من ميليتوس
milesii , orum	سكان ميليتوس
milia , milium , mille	الألف (جمع)
militaris , e	عسكرى (صفة)
militia , ae	الخدمة العسكرية (مؤنث)
mille	ألف (عدد غير معرب)
millesimus , a , um	ألفى

miltiades , is	ميتاديس (مذكر)
minae , arum	تهديد , وعيد (مؤنث جمع)
minax , acis	كثر التهديد , مهدد (صفة)
minerva , ae	مينيوفا (مؤنث)
minime , (parum	بصورة ضئيلة , لا شئ إطلاقاً (ظرف مبالغة تفضيل من
miniater , stri	خادم , قسيس , كاهن , موظف (مذكر)
minor , oris	مينور (مذكر)
minua	(parum
minutus , a , um	أقل (ظرف , أفعال تفضيل من صغير , ضئيل , قليل
populus minutus	عامة الشعب , الرعاع
miror , aris , atus sum , are (dep.)(1)	أدهش , أعجب
mirus , a , um	مدهش , عجيب , غريب
miser , era , erum	بائس , مسكين
misereor,eris,miseritus(misertus sum)eri(dep.)(2)	انعاطف مع
miseria , ae	بؤس , عذاب , فقر (مؤنث)
miaeror,aris,atus,sum,ari(dep.)(1)	انتحب , أرثى
mithridates , is	ميثريدا تيس (مذكر)
mitis , e	وديح , لطيف (صفة)
mitto , is , misi , missum , ere (3)	ارسل
mobilis , e	منقول , متحرك , قابل للتغيير , وملتون متردد (صفة)
modestus , a , um	معتدل , بسيط , محتشم
modicus , a , um	معتدل , بسيط
moenia , ium	تحصينات (جماد جمع)
mola , ae	طاحونة , رحي (مؤنث)
molestus , a , um	مزعج , ممل , مضايق
moliior,iris,itus sum,iri (dep.) (4)	أكيد , أدير مكيدة , أفس

mollio, is, ivi, itum, ire(4)	اللين , الطف , اخفف , أسكن , أهدأ(4)
mollia , e	رخو , طرى , لين (صفة)
moneo , es , ui , itum, ere	انصح , أحذر
monile , is	قلادة , مصاغ , عقد , حليلة (جماد)
mone , montis	جبل (مذكر)
monsttum , i	هولة , وحش مفزع (جماد)
monumentum , i	أثر
morbus , i	مرض , علة (مذكر)
mорий, eris, mortuus sum, mori(dep.)	أموت (لازم)(3)
moror , aris , atus sum , ari (dep.)	أتلكأ (1)
mors , mortis	وفاة , موت (مؤنث)
morsus, us	عضة (مذكر)
mortalis , e	مमित , فانى (صفة)
mos moris	عادة , تقليد (مذكر)
mosa , ae	موسا , نهر فى بلجيكا (مؤنث)
motus , us	حركة , تحرك (مذكر)
moveo , es , movi , motum , ere(2)	احرك
mulceo , es , mulsi , mulsum , ere (2)	أهدئ
multiformis , e	متعدد الأشكال (صفة)
multitudo , inis	جمع , حشد (مؤنث)
multo	كثيراً , جداً , بكثرة , بغزارة (ظرف)
multo , as , avi , atum , are (1)	اغرم , أعاقب
multum	كثيراً (ظرف)
multus , a , um	كثير , عديد

mulvius , ii	مولثيوس (جسر على نهر التيبير) (مذكر)
munificus , a , um	كريم , سخى , شهم , ذو مروءة
munio , is , ivi , (ii) , itum , ire (4)	أحمى , أحصن
munus , eris	عمل , وظيفة , واجب (جماد)
murus , i	حائط , جدار (مذكر)
mus , muris	فأر (مذكر)
mus , muris	موس (اسم أطلق على بوبليوس ديكيوس)
mutabilia , e	متردد , متلون , قابل للتغيير والتبديل (صفة)
muto , as , avi , atum , are (1)	أغير , أبدل , أنقل
myrica , ae	الطرفاء (شجرة نحيلة الأغصان) (مؤنث)
myro , onis	ميرو (رياضى يونانى) (مذكر)

- n -

nam	لأن , إذ أن (حرف ربط)
nanciscor,eris,nactus(nactus)sum,nancisci (dep.)(3)	أحصل على
narratio , onis	رواية , حكاية , قصة (مؤنث)
narro , as , avi , atum , are (1)	أقص , أحكى
nascor,eris,natus sum,nasci (dep. (3)	الد
natelis , e	ميلادى , خاص بالميلاد (صفة)
natus , a , um	(nascor) مولود
naufragium , ii	تحطيم السفينة وغرقها , اصطاد السفينة (جماد)
nauta , ae	ملاح , بحار (مذكر)
navalis , e	بحرى (صفة)
navigo , as , avi , atum , are (1)	أبحر
navis , is	سفينة (مؤنث)
ne (ut non)	كى لا

necessarius , a , um	لازم , ضرورى
neco , as , avi , atu m , are (1)	اقتل
nefandus , a , um	ممقوت , لعين , شنيع
nefarius , a , um	شرير , آثم
neglego , is , lexi , lectum , ere (3)	أتقاضى عن , أهمل
nemo , neminis	لا أحد
nemus , oris	غاية (جماد)
neoptolemus , i	نيوبتوليموس (ابن اخيل) (مذكر)
nepos , otis	ابن , أو ابنة الأخ أو الأخت (مذكر مؤنث)
neptunus , i	نيبتونوس (مذكر)
nequeo , is , ivi , (ii) , itum	لا أستطيع
nero , onis	نيرون (مذكر)
nerva , ae	نيرفا (مذكر)
nescio , is , ivi , itum , ire (4)	لا اعرف
neuter , tra , trum	لا أحد من الاثنين
nex , necis	موت , خراب , مذبحه , دمار (مؤنث)
niger , gra , grum	أسود
nihil	لا شئ (اسم غير معرب)
nilus , i	النيل (نهر النيل) (مذكر)
nisi	إذا لم (حرف ربط)
nisus , i	نيسوس (صديق ايوربالوسى فى الانيادة) (مذكر)
nitor , oris	سناء , فخامة , ابهة , عظمة (مذكر)
nitor,eris,nisus sum,niti (dep.)(3)	استند على , اعتمد على , اجتهد , أكافح
nobilis , e	نبيل , شريف , معروف , مشهور (صفة)
nobilitas , atis	نبيل , شهرة (مؤنث)

nocens , entis	أثم , مذنب , شريبر (صفة)
noceo , es , ui , itum , ere (2)	أوذى , أضر (+ القابل)
noctu	ليلاً (ظرف)
nolo , non vis , nolui , noiie	لا اريد
nomen , inis	اسم , تسمية (جماد)
nomino , as , avi , atum , are (1)	اسمى , أعين
non	لم , لن , لا (ظرف)
nonae , arum	اليوم التاسع قبل الـ ides واليوم الخامس من كل الشهر ما عدا مارس مايو ويوليو وأكتوبر وفيها يكون اليوم السابع (مؤنث جمع)
nondum	ليس بعد (ظرف)
nonnemo	بعض الناس
nonnullus	بعض (صفة)
nonus , a , um	التاسع
nos	نحن (ضمير شخصى)
noster , noatra , nostrum	أنا (صفة ملكية للمتكلمين)
notus , a , um	معروف
novem	تسعة (عدد أصلى غير معرب)
november , bris , bre	نوفمبر
novies	تسع مرات (ظرف عددى)
novus , a , um	جديد
nox , noctis	ليل (مؤنث)
nubes , is	سحاب , غمام (مؤنث)
nubilum , i	سما مملوءة بالغمام (جماد)
nubo, is , nupsi , nuptum , ere	اتزوج (للمرأة) (لازم + القابل)
nudus , a , um	عار , محروم

nullus , a , um	لا أحد
num	ممکن , محتمل , من الجائز , هل؟ (ظرف استفهامی)
numa , ae	نوما (ثانی ملوک روما) (مذکر)
numantia , ae	نوماننتنا (مدينة اسبانية) (مؤنث)
numero , as , avi , atum , are (1)	أعد , أخص
numerus , i	عدد (مذکر)
nummus , i	نقود (مذکر)
numquam	لم , لا لن ... أبدا (ظرف)
nunc	الآن (ظرف)
nuntius , ii	رسول , رسالة (مذکر)

— 0 —

ob	بسبب , لـ (حرف جر + المفعول به)
obeo , is , ivi , (ii) , itum ire	اذهب تجاه , أواجه (لازم ومتعدى)
obiurgi , as , avi , atum , are (1)	النسيان (مؤنث)
obiurgo , as , avi , atum , are	ألوم , أوبخ , أعير
obliviscor,eris,oblitus sum,i(dep.)(3)	أنسى
obrior,eris,ortus sum,oriri(dep.)	ابزغ , اطلع (لازم)(3 , 4)
obscurus , a , um	معتم , مظلم , غير مؤكد , مشكوك فيه
obsequor,eris,secutus sum,sequi(dep.)	اعتطف , اتنازل , أساعد , أطيع (لازم)(3)
observatio , onis	ملاحظة , اعتبار , احترام (مؤنث)
obses , idis	رهين (الحرب) (مذکر ومؤنث)
obsideo , es , sedi , sessum , ere (2)	أحاصر
obsidio , onis	حصار , محاصرة (مؤنث)
obsum , es , obfui (offui) obesse	اتلف , أضر , أضايق
obtempero ,as , avi , atuim , are (1)	أطيع

obtineo , es, iu , tentum , ere (2)	املك , أمسك , أشغل
occasio , onis	فرصة , مناسبة (مؤنث)
occido , is , occidi , occisum , ere (3)	أقتل
occisus , a , um (occido	مقتول (اسم مفعول من
occultus , a , um	سرى , خفى , مختفى
occupo , as, ,avi , atum , are (1)	أحتل
oceanus ,i	أكيانوس (مذكر)
octavianus , i	اوكتافيانوس (مذكر)
octavus , a , um	الثامن
october , bris , bre	اكتوبر
octoni , ae , a	ثمانية لكل واحد
oculus , i	عين (مذكر)
odi , isti , odisse	اكره
odium , ii	كره , مفت (جماد)
odor , oris	رائحة (مذكر)
offendo, is, fendi, fensum, ere(3)	اكد , أسى إلى , أتصادف , أتفائل
ofoensa , ae	كره , صدام , تصادم , اساءة , تكدير (مؤنث)
offero , fera , obtuli , oblatum , offerre	اقدم , اهب , اهدى
officiosus , a , um	اهل ل , مستحق
officium , ii	وظيفة , واجب (جماد)
olea , ae	زيتون , شجرة الزيتون (مؤنث)
olympia , orum	الألعاب الأولمبية (جماد جمع)
omnino	بصورة كاملة (ظرف)

omnis , e	كل ، جميع (صفة)
obera , ae	مجهود ، مشقة (مؤنث)
obertus , a , um	مغطى ، غير مكشوف ، سرى
obimus , a , um	دسم ، سمين ، خصيب ، مثمر
res obima	فلاح ، نجاح ، توفيق ، يسر ، سعادة
obbrto , is , ivi , itum , ere (3)	اواجه ، اقابل
obbidanus , a , um	ساكن المدينة ، ساكن البلدة
obbidum , i	بلدة (جماد)
obbortunus , a , um	مناسب ، ملائم ، مفيد
obbrimo , is , bressi , oressum , ere (3)	اردع ، اكبح ، انهر ، اضيق على
oppugnatio , onis	حصار ، محاجرة ، تضيق ، احاطة (مؤنث)
oppugnator , oris	محاصر ، مضيق على (مذكر)
obtimates , ium	الاشراف (مذكر جمع)
opus , eris	عمل ، جهد ، واجب (جماد)
ora , ae	شاطئ (مؤنث)
oraculum , i	نبوءة ، فأل (جماد)
oratio , onis	خطبة ، حديث ، قول (مؤنث)
orator , oris	خطيب (مذكر)
orbis , is	دائرة ، عالم (مذكر)

orgetorix , igis	آوجيتوركس (رئيس الهلفيتين) (مذكر)
oriens , entis	الشرق (مذكر)
ornatus , a , um	مزين , مزخرف
ornatus , us	زينة , زخرفة , تجميل (مذكر)
orno , as, avi , atum , are (1)	أزين , أجمل
oro , as , avi , atum , are (1)	أتوسل , أضرع
orodes , is	اوروديم و (ملك البارتين) (مذكر)
os , oris	فم , وجه (جماد)
os , ossis	عظمة (جماد)
ostentum , i	أعجوبة , معجزة (جماد)
ostium , ii	مدخل , باب (جماد)
otium , ii	كسل , خمول , وقت الفراغ , وقت الراحة (جماد)
ovis , is	شاه (غنم) (مؤنث)

- p -

p. = publius , ii	يويليوس (مذكر)
pactio , onis	معاهدة , اتفاقية , عهد , ميثاق (مؤنث)
pallas , adis	الآلهة اثينا وتقابل مينيرفا عن الرومان (مؤنث)
pallium , ii	عباءة , برنس (جماد)
plama , ae	كف اليد , نصر , جائر (مؤنث)
palus , udis	مستنقع (مؤنث)
pando, is, pandi, pandi, pansum, ere(3)	افتح , ابسط , انشر
pansa , ae	بانسا (قنصل رمانى) (مذكر)
pepinus , ii	بايبيوس (مذكر)
papirius , ii	باييريوس (مذكر)

par , paris	مساو , ند , مشاجه (صفة)
parco, is, peperc, parsum, ere(3)	اعفو عن , أرحم (لازم + القابل)
pario , is , peper, partum , ere (3)	الد , أوجد , انشأ
parisii , orum	باريس (مذكر جمع)
paro , as , avi , atum , are (1)	أعد , أجهز
pars , partis	جزء , قسم , جهة
parsimonia , ae	اقتصاد , توفير (مؤنث)
partes , ium pars	جذب , فريق (جمع)
parthi , orum	البرثانيون (مذكر جمع)
particeps , participis	شريك (صفة)
participo , as , avi , atum , are (1)	أشارك , أقسم
parun	قليلاً جداً (+ المضاف إليه) (ظرف)
parvulus , a , um	صبي , صغير
parvus , a , um	صغير , ضئيل
pastor , oris	راعى (مذكر)
pateo , es , ui , ere	انتشر , أتوسع , انفتح (لازم) (2)
pater , patris	والد , أب (مذكر)
paternus , a , um	أبوى (صفة)
patiens , entis	صبور , ساكن , هادئ (صفة)
patientia , ae	جر , أناة , جلد (مؤنث)
patipr,eris,passus sum,pati(dep.)(3)	احتمل , اسمح (+ المصدر) (3)
patria , ae	وطن (مؤنث)
patronus , i	حامى , واق , شفيع , مدافع , سيد , رب , مولى (مذكر)
paucus , a , um	قليل (صفة)
paulo	قليلاً (يوضع أمام أفعال التفضيل) (ظرف)

pauper , eris	فقير (صفة)
pax , pacis	صلح , سلام , أمن , سلم (مؤنث)
pecco , as , avi , atum , are	أخطأ (لازم) (1)
pecus , oris	غنم , شاه , ماشية (جماد)
pecus , pecudis	حيوان , بهيم (مؤنث)
pedes , peditis	جندي من المشاة (مذكر)
pedester , stris , stre	خاص , بالمشاة (صفة)
pelagus , i	بحر (جماد)
pellis , is	جلد , بشرة (مؤنث)
penates , ium	بيناتس (آلهة الوطن والعائلة) (جمع مذكر)
penitus	بعمق (ظرف)
per	عبر , خلال (حرف جر + المفعول به)
peragro , as , avi , atum , are (1)	اطوف , أتجول , أسافر
percurro, is, cucurri (curri), cursum, ere(3)	اطوف , أجول , أجرى عبر
percutio, is, cussi , cussum , ere(3)	اقرع , أضرب , أطرق
perdiccas , ae	برد يلكاس (قائد من قواد الاسكندر) (مذكر)
perditus , aum	بائس , مسكين , يائس , حزين (صفة)
perdo , is , perdidi , itum , ere	افتقد (3)
perduco , is , duxi , ductum , ere	أقود , أدير و أسوق (3)
peredo , is , edi , esum , ere	أهلك و أفنى (3)
perso , is , ii , ire	أهلك (لازم)
perfero, fers, tuli, latum, ferre	انجز , أنهى , أتم , أتحمّل , اعانى
perficio, is, feci , fectum , ere	انجز , أنهى , أتم , أحصل على
perfuga , ae	هارب , فار , أبق (مذكر)
periculum , i	خطر (جماد)
peritus , a , um	خبير بـ (+ المضاف إليه) (صفة)

permoveo,es,mori , motum , ere	أحرك , أثير , استغفر (2)
perniciēs , ei	دمار , طاعون (مؤنث)
perniciōsus , a , um	مدمر , مضر , مؤذى (صفة)
perpetuus , a , um	دائم , مستمر , خالد , أبدى (صفة)
perquiro,is, quisivi , qusitum	انقب , ابحت , استكشف (3)
persae , arum	الفرس , (مذكر جمع)
perscribo,is,scripsi,scriptum,ere	اكتب , أسجل (3)
persequor,eris,secutus sum,sequi,(dep.)	اتبع (3)
persevero , as , avi , atum , are	أواظب , أثابر (3)
persuadeo,es,suasi,suasum , ere	اغرى , أقنع (لازم + القابل) (2)
pertinax , acis	بيرثيناكس (امبراطور رمانى) (مذكر)
perturbo,as,avi,atum , are (1)	اقلب , أعكس , ازعج , اقلق
pervenio , is , veni , ventum , venire	أصل (لازم (4))
pes , pedis	قدم (مذكر)
pessimus , a , um , (malus	الاردأ , الاسوأ (صفة مبالغة تفضيل
peto , is , ivi , (ii) itum , ere	أطلب , أسأل , ابحت عن
phaedrus , i	قايدروس (مذكر)
phalanx , angia	فيلق الجيش (مؤنث)
phalaris , idis	فالاريس (طاغية اجريجنوم) (مذكر)
pharisaei , orum	الفارسيون (عشيرة يهودية) (مذكر جمع)
philippensis , e	خاص بفيليب , تابع لفيليب (صفة)
philippi , orum	فيلبى (مدينة فى مقدونيا) (مذكر)
philosophia , ae	فلسفة (مؤنث)
philosophus , i	فيلسوف (مذكر)
phoebus , i	فوبيوس , أبوللو (مذكر)

picens , a , um	من بيكينوس (لإقليم فى وسط إيطاليا) (صفة)
pietas , atis	تقوى , ورع , حب , احترام , تبجيل (مؤنث)
piger , gra , grun	كسول , خامل (صفة)
pindarus , i	بندار (مذكر)
pinguis , e	غنى , خصيب , مثمر , دسم (صفة)
pinus , i	شجرة الصنوبر (مؤنث)
piscator , oris	صياد السمك (مذكر)
piscis , is	سمك (مذكر)
pisso , onis	بيسو (اسم علم) (مذكر)
pius , a , um	تقى , مقدر للواجب (صفة)
placeo , es , ui , itum , ere	اسر و ارضى (+ القابل) (لازم (2))
placidus , a , um	هادئ , وديع , ساكن , رابط الجأش (صفة)
placo , as , avi , atum , are	أهدأ , ألطف (1)
plaga , ae	ضربة , جرح , صدمة (مؤنث)
planities , ei	سهل , مستو (مؤنث)
plataeenses , ium	سكان بلاتايا plataea (مذكر جمع)
plato , onis	افلاطون (مذكر)
plaudo , is , plausi , plausum , ere	أصفق , أهلل (3)
plausus , us	ضحيج , تصفيق (مذكر)
plebs , plebis	العامية (مؤنث)
plenus , a , um	مملوء ب (+ المضاف إليه أو مفعول الأداة) (صفة)
plerique,pleraequen,pleraque	الجزء الأكبر , الأكثرية (صفة)
plumbum , i	رصاص (معدن) (جماد)
plurimum , i (mnlum	بصورة كثيرة جداً (ظرف مبالغة تفضيل من
plurimus , a , um (multus	كثير جداً (صفة مبالغة تفضيل من

plus , pluris (multus	أكثر (افعل تفضلي من
poena , ae	عقاب (مؤنث)
poenam , dare	أعاقب
poeta , ae	شاعر (مذكر)
pollex , icis	الأصبع الإبهام (مذكر)
polliceor , eris , itus sum , eri	أعد , أتعهد (2)
pollux , ucis	بوللوكس (مذكر)
polyclitus , i	بوليكليتوس (مثال يوناني) (مذكر)
polycrates , is	بوليكرايتيس (طاغية ساموس) (مذكر)
polypercon , ontis	بولى بيركون (مذكر)
pompeius , ii	بومبى (اسم علم) (مذكر)
pono , is , posui , positum , ere (3)	أضع (3)
pontifex , ficis	الحبر (عضو مجلس الكهنة الأعلى فى روما) (مذكر)
pontus , i	بحر (جماد)
popularis , e	عامى , شعبي , مألوف عادى (صفة)
populus , i	شعب , أمة , العامة (مذكر)
populus , i	شجر الجوز (خشب الزان) (مؤنث)
porcius , ii	بوركيوس (مذكر)
porsena , ae	بورسينا (ملك ارتسكى) (مذكر)
porta , ae	باب (المدينة) , مدخل (مؤنث)
porto , as , avi , atum , are	أحمل , انقل (1)
portus , us	ميناء (مذكر)
possum , potes , potui , posse	استطيع , اقدر (لازم)
post	بعد (حرف جر + المفعول به) (وظرف)
postea	بعد أن (ظرف)

posterior , ius	(posterus	تالى , تابع (أفعل تفضيل من
postremo		أخيراً , فى النهاية (ظرف)
postridie		اليوم التالى (ظرف)
postulo , as , avi , atum , are		أطلب , أطالب , أخذ عنوة (1)
potens , entis		ذو قدرة , ذو سلطة , قادر (صفة)
potentia , ae		مقدرة , قسوة (مؤنث)
potestas , atis		حكم , سلطة , نفوذ , قدرة (مؤنث)
potior,iris,potitus sum,iri (dep.)		احصل على (لازم + مفعول الأداة) (4)
potius		بالأحرى , بجدارة (ظرف افعل تفضيل)
potus , us		شراب , مشروب (مذكر)
praebeo , es , ui , itum , ere		أظهر (2)
praecipuus , a , um		استثنائى , خاص , مفصل , غير عادى (صفة)
praeclarus , a , um		مشهور , بارز , لامع (صفة)
praedium , ii		عزبة , مزرعة , عمق (جماد)
praedo , onis		لص بحر , قرصان (مذكر)
praefectura , ae		حكومة , سلطة , إدارة الولاية , المحافظة (مؤنث)
praefectus , i		والى , حاكم , محافظ , مدير , رئيس البوليس (مذكر)
praefero , fers , tuli , laturm , ferre		اتقدم , أفضل
praeficio , is , feci , fectum , ere		أضع على رأسى (3)
praemitto , is , misi , missum , ere	(3)	أضع مقدماً , أقدم
praeneste , is		براينستى (وهى palestrina اليوم) (جماد)
praeruptus , a , um		منحدر , مكسر , مهشم , محطم , مخرب (صفة)
praescriptio,onis		ديباجة , مقدمة , تمهيد , تعليمات , نظام , قانون , عادة (مؤنث)
praesidium , ii		حامية , حماية , حراسة (جماد)
praesto,as,stiti,stitum,are		أظهر , أنجز , أعمل (لازم ومتعدى (1))

praesum , es , fui , esse	أكون على رأس (+ القابل) لازم
praeter	ما عدا (حرف جر + المفعول به) (وظرف)
praetereo, is, ivi, (ii), itum, ire	أجاوز , أتفق (لازم ومتعدى)
praeteritus , a , um	ماضى , غاير , منصرم , فائت (صفة)
praetor , oris	برايتور , قاضى , حكم (مذكر)
praetorius , a , um	خاص , بالبرايتور , قضائى (صفة)
praevideo , es , vidi , visum , ere	اتنبأ (2)
pravitas , atis	أثم , شر (مؤنث)
pravus , a , um	اثيم , شرير
praxiteles , is	براكسييتيليس (مثال اثينى) (مذكر)
pretium , ii	سعر و ثمن , قيمة , مكافأة , جائزة , تعويض , أجر (جماد)
priamus , i	برياموس (مذكر)
pridie	اليوم السابق , البارحة (ظرف)
primus , a , um (prior	الأول (صفة , مبالغة تفضيل من
primum	أولاً , فى ابدئ الأمر (ظرف , جماد)
principatus , us	رئاسة , حكم (مذكر)
prior , prius	سابق , (صفة أفعال تفضيل)
prius , quam	قبل أن
priscus , i	مريسكوس (مذكر)
pristinus , a , um	سابق , قديم (صفة)
privatus , a , um	محروم من , ممنوع , خاص , خصوص (صفة)
privigna , ae	ابنة الزوج , أو الزوجة (مؤنث)
pro	قبل , من أجل , طبقاً لـ (حرف جر + مفعول الأداة)
probitas , atis	امانة , استقامة , ذمة (مؤنث)
probo , as , avi , atum , are	أوافق على (1)

probus , i	برويوس (مذكر)
procedo , is , cessi , cessum , ere	أتقدم (لازم (3))
procerus , a , um	عال , مرتفع , طويل
proclivis , a	ميال ل , منحدر (صفة)
prodigus , a , um	مسرف , مبذر , سخى
proditor , oris	خائن (مذكر)
proelium , ii	موقعة , قتال (جماد)
profectio , onis	رحيل , سفر , قيام (مؤنث)
proficiscor,eris,fectus sum,cisci(dep.)	أذهب , أرحل , أبدأ السير (لازم (3))
profiteor,eris,fessus sum,eri(dep.)	أعلن , أقر , أعرف (1)
profligo , as , avi , atum , are	أهزم , اقهر (1)
profundus , a , um	عميق , مظلم , غامض (صفة)
proles , is	ذرية , نسل , نتاج (مؤنث)
prope	قرب , بالقرب من (حرف جر + المفعول به أو القابل , ظرف)
propinquus , a , um	قريب (صفة)
propositum , i	هدف , غرض , قصد , نية (جماد)
proprius , a , um	خاص , مميز (صفة)
propter	بسبب (حرف جر + المفعول به , ظرف)
prosperus , a , um	ملائم , مناسب , مفلح , ناجح , موفق (صفة)
prospicip,is,spexi,spectum,ere	أجهز , ازود , أمد , أبصر , أشاهد أشعر به (3)
prosum,prodes,fprofui,prodesse	أكون نافعاً ل (لازم)
provideo , es , vidi , visum , ere	اتنبأ , أستعد (3)
provincia , ae	ولاية (مؤنث)
proximua , a , um	قريب جداً , تالى , تابع (صفة)
prudens , entis	خبير , محرج , مخنك , حذر , فطن (صفة + المضاف إليه)
prudencia , ae	حذر , احتراس , فطنة , تبصر (مؤنث)

ptolemaeus , i	بطليموس (مذكر)
publicus , a , um	عام (صفة)
res publica	الصالح العام , الجمهورية
puddor , oris	حشمة , حياء , خجل (مذكر)
pulla, ae	فتاة (مؤنث)
puer , i	ولد (مذكر)
pugna ,ae	معركة (مؤنث)
pugno , as , avi , atum ,	أحارب (لازم) (1)
pulchritudo , inis	جمال , فتنة (مؤنث)
pulso , as, avi , atum , are	أدفع , أحث , اقلب (1)
pulvinar , aris	مخدة , وسادة , سرير (جماد)
punicus , a , um	قرطاجي (صفة)
punio , is , ivi , itum , ire	اعاقب (4)
purus , a , um	نقى , صافى , أصلى (صفة)
puter , tris , tre	فاسد , تالف , متعفن (صفة)
pythagoras , ae	فيثاغورث (فيلسوف ساموس) (مذكر)

- q -

q. = quintus , i	كوينتوس (مذكر)
quadragesimus , a , um	الأربعون (صفة عددية)
quadraginta	أربعون (عدد أصلى غير معرب)
quadringenti , ae , a	أربعمائة (صفة عددية)
quaero , is , quaesivi , quaesitum , ere	أسأل (3)

quaeso , quaesumus	أرجو , أتوسل , أضرع
quaestor , oris	كويستور (رئيس البوليس أو الشرطة) (مذكر)
qualis , e	أى , أية (صفة استفهامية)
quam	من (ظرف وحرف ربط)
quanto	كم (ظرف يستعمل قبل أفعال التفضيل)
quantum	كم (ظرف)
quantus , a , um	عديد (صفة)
quare	بناء على ذلك (ظرف وحرف ربط)
quartus , a , um	ربع (صفة)
quartum	للمرة الرابعة (ظرف)
quasi	كما لو (ظرف وحرف ربط)
quarter	أربع مرات (ظرف عددي)
quaterni , ae , a	أربعة لكل واحد
quattuor	أربعة (عدد أصلي غير معرب)
quercus , us	خشب القرو (مؤنث)
queror,oris,stus sum,queri(dep.)	أتألم و أتوجع , انتحب (3)
querulus , a , um	متألم , حزين , باكي (صفة)
qui , quae , quod	الذى , التى (اسم موصول)
quia	لأن (حرف ربط)
quidam,quaedam,quodam	شخص ما , شئ ما (ضمير مبهم صفة)
quidem	حقاً , فى الحقيقة , بدون شك (ظرف)
quies , etis	راحة , نوم (مؤنثة)
quietus , a , um	هادئ , ساكن , مستريح (صفة)
quintilis (quintilis) , is	كوينتيليس
quindecim	خمسة عشر (عدد غير معرب)

quingentesimus , a ,um	الخمسمائة (صفة)
quingenti , ae , a	خمسمائة (عدد)
quini , ae , a	خمسة لكل شخص
quingagesimus , a , um	الخمسون (عدد ترتيبي)
quingaginta	خمسون (عدد غير معرب)
quinque	خمسة (عدد غير معرب)
quintilianus , i	كوينتيليانوس (مذكر)
quintus , a , um	الخامس (صفة عددية)
quis , quid	من ؟ (ضمير استفهامي ؟)
quisquam , quaequam , quidquam	بعض الناس
nec quisquam	ولا واحد
quisque , quaeque , quodque	كل
quo	إلى أين ؟ (ظرف)
quocumque	في كل مكان (ظرف)
quod	لماذا , لأن , بسبب بما أن , حيث أن (ظرف وحرف ربط)
quonodo	كيف (ظرف استفهامي)
quondam	ذات مرة , في وقت ما (ظرف)
quoniam	بما أن , لما كان (حرف ربط)
quoque	أيضاً (ظرف)
quotiens (quoties)	عدة مرات (ظرف عددي)
quotus , a , um	في أي عدد

- r -

rabies	غضب , سخط (تستعمل في المفعول به ومفعول الأداة فقط) (مؤنث)
radix , icis	جذع النبات , أساس , أصل (مؤنث)

rapina , ae	شهره , نهب , سلب , اغتصاب (مؤنث)
rapto , as , ai , atum , are	انهب , أسلب , اغتصب (1)
rarus , a , um	نادر (صفة)
ratio , onis	حساب , تقرير , بيان , دافع , سبب , حق , إدراك نظام (مؤنث)
rebello , as , avi , atum , are	أثور , أتمرد , أهيج (لازم) (1)
recedo ,is , cessi , oessum , ere	أعود (لازم) (2)
reciplo,is , cepi , ceptum , ere	استرد , استلم , استرجع (1)
se recipere	استرد , اختبأ , التجأ , أهرب
reconcilio,as,avi,atum , are	أصالح , أوافق بين , أصلح (1)
rectus , a , um	منتظم , قياس , مباشر , مستقيم , امين , صادق (صفة)
recupero , as , avi , atum , are	استرد , استعيد (1)
reddo , is , didi , ditum , ere	أرد , اعيد , أوءدى (3)
redeo , is , ii , itum , ire	أعود (لازم)
refero,fers,retuli(rettuli),latum,ferre	أرد , أعوض , أنسب إلى , أعزو إلى
refugio , is , fugi , ere	أهرب , أنسحب , اتخلى عن , اتجنب
regius , a , um	ملكى , حقيقى , واقعى (صفة)
regno , as , avi , atum , are	احكم , أكون ملكاً (1)
rego , is , rexi , rectum , ere	أحكم (3)
regulus , i	ريجولوس (مذكر)
relinquo , is , liqui , lictum , ere	أترك , أهجر (3)
reliquus , a , um	البقية , الباقي 0 صفة تستعمل بصفة خاصة فى الجمع)
renaaeo,es,mansi,mansum,ere	ابقى , أظل , استمر (لازم) (2)
remex , igis	شاعر , شجاع , منظم القوافى (مذكر)
reminiscor , eris , reminisci(dep.)	أذكر , اتذكر (3)
renideo , es , ere	ألمع , أتلاء , أتلاء , أتسم
renuntio,as,avi,atum,are	أعلن , أنبذ , أرفض , أعدل عن

reor , reris , ratus , sum , reri (dep.)	(2) أظن
repentinus , a , um	غير منتظر , مفاجئ
reperio, is, repperi(reperi), repertum, ire	أجد , أكتشف , اعرف (4)
repono , is , posui , positum , ere	أضع جانباً , أرجع , أترك
res , rei	شئ , موضوع , مسألة , موقف (مؤنث)
res gestae , reeum gestarum	انتصارات , أعمال مجيدة
res publica	الجمهورية
res adversae	المصائب , الملمات
res secundae	حظ سعيد
resisto , is , stiti , ere	أقاوم , أتحمل , ابغى , أتوقف (لازم) (3)
resolvo, is, solvi, solutu, ere	أفك , أحل , أذيب , أفتح (3)
resono , as , sonui , (sonavi) , are	أدوى , أرجع الصدى
respondeo, es, spondi, sponsum, ere	أجيب (+ القابل) (2)
restituo, is, stitui, stitutum, ere	أقيم , أشيد , انشأ , أجدد (3)
retineo , es , ui , tentum , ere	أحتفظ , أحجز (2)
retis, is – rete, is	شرك , شبكة , فخ (وتستعمل بصورة أكثر مؤنث وجماد))
reus , i	متهم , مخطئ , مذنب , مدان (مذكر)
revertor , is , verti , versum , ere	أرجع , أعود (لازم) (3)
revertor, eris, versus sum, verti (dep.)	أرجع , أعود (لازم) (3)
revoco , as , avi , atum , are	أتذكر , استدعى , أستعيد (1)
rex , regis	ملك (مذكر)
rhenus , i	نهر الراين (مذكر)
rhetorica , ae	خطابة , فن الخطابة (مؤنث)
rideo , es , risi , risum , ere	أضحك (2)

ripa , ae	ضفة النهر (مؤنث)
risus , us	ضحك , سخرية , استهزاء (مذكر)
rosa , ae	وردة (مؤنث)
rotundus , a , um	مستدير (صفة)
rudis , a	خشن , فظ , غليظ , جاف , غير متمرن (+ المضاف إليه) (صفة)
ruina , ae	خراب , دمار (مؤنث)
ruo, is, rui, rutum , ere	أتدهور , أرتمي , أندفع , انساب , أجرى (3)
rupes , is	صخرة (مؤنث)
rursus	أيضاً , على العكس (ظرف)
rusticus , a , um	ريفى (صفة)

— S —

sabina , ae	سابينية (من وسط ايطاليا) (مؤنث)
sabinus , a , um	سابيني (من وسط ايطاليا) (صفة)
sacer , era , erum	مقدس , معلون (صفة)
sacerdos , otus	قديس , قديسة , كاهن , كاهنة (مذكر ومؤنث)
sacratus , a , um	قدس , مكرس (صفة)
sacrifico , as , avi , atum , are	اضحى , اقدم تضحية
saebe	كثيراً ما , غالباً (ظرف)
saevio , is , ii , itum , ire	اقسو لازم (4)
saevitia , ae	قسوة , صرامة , وحشية (مؤنث)
saevus , a , um	قاس , صارم (صفة)
sallustias , ii	سالوستيوس (مذكر)
saltrus , um	كلاء , مرسى , مرتع , منحدر , ممر بين جبلين أو غابتين (مذكر)

salus , utis	سلامة ، نجاة (مؤنث)
salutaris , e	صحي ، سليم ، نافع ، مفيد (صفة)
salve salveo	سلام عليك ، صباح الخير ، وداعا امر من
salvus , a , um	سليم ، معافى (صفة)
samnites , ium	الساميتيون (مذكر جميع)
samos (samus)	ساموس (جزيرة) (مؤنث)
sancio , is , sanxi , sanctum , ire(4)	اقرر ، اثبت ، اعتمد ، اجب
sancte	بصورة مقدسة ، بشك ، بريية (ظرف)
sanguis , inis	دم (مذكر)
sabiens , entis	حكيم ، عاقل (صفة)
sabienter	بحكمة (ظرف)
sabor , oris	طعم ، نكهة ، ذوق (مذكر)
sardinia , ae	سردينا (مؤنث)
satis	كاف (+ المضاف إليه) (ظرف)
satisfecio , is , feci , factum ,	اكفى ، اقنع ، ارض (لازم + المقابل) (3)
satisfactio , onis	كفاية ، اقتناع ، رضى ، اعتذار (مؤنث)
saxum , i	صخرة ، حجر (جماد)
sceius m eris	جريمة ، اثم (جماد)
scientia , ae	معرفة دراية ، علم ، فن ، نظام (مؤنث)

scintilla , ae	شرارة ، ومضة (مؤنث)
scibio , onis	سكيبو (مذكر)
scribo , is , scripsi , scribunt , ere	اكتب ، انسخ (3)
scytha , ae (مذكر)	من schythia
secerno , is , crevi , cretum , ere	اقسم ، اوزع ، اميز (3)
secretum , i	سر (جماد)
secundus , a , um	مناسب ، موافق ، ثانية ، طبقا ل ، عملا ب
sed	بل ، لكن ، (جرف ربط)
sedecies	سته عشر مرة (ظرف عددي)
sedecim	سته عشر (عدد غير معرب)
sedeo , es , sedi , sessum , ere	اجلس لازم (2)
sedes , is	مقر ، كرسي ، مركز رئيسي (مؤنث)
sedigitus , i	سيد بجيتوس (مذكر)
seditionis , onis	ثورة ، شغب ، فتنة ، عصيان (مؤنث)
seges , etis	حقل ، ساحة ، حصاد ، جمع المحصول (مؤنث)
seleucus , i	سليوقس (قائد من قواد الاسكندر الاكبر) (مذكر)
semel	مرة واحدة (ظرف عددي)
semper	دائما (ظرف)
semiternus , a , um	خالد ، أبدى ، دائم (صفة)
senatus , us	مجلس الشيوخ ، السناتو (مذكر)
seneca , ae	سينكا (مذكر)
senectus , utis	شيخوخة (مؤنث)

senex , senis	شيخ ، كبير السن (صفة)
seni , ae , a ,	سنة لكل شخص
senones , um	السنونيون (من قبائل بلاد الغال) (مذكر جمع)
sensus , us	احساس ، ادراك ، شعور (مذكر)
sententia , ae	رأى (مؤنث)
sentio , is , sensi , sensum , ire	اشعر ، احس
sebttem	سبعة عدد غير معرب
sebtember , bris , bre	سبتمبر (صفة)
sebttemtrionalis , e	شمالي (صفة)
sebtennium , ii	فترة سبع سنين (جماد)
sebties	سبعة مرات (ظرف عددي)
sebtimus , a , um	السابع (صفة)
sebttingentesimus , a , um	السبعون (صفة عددية)
sebtuaginta	سبعون عدد غير معرب
sequani , orum	السكرانيون (من شعوب بلاد الغال) (مذكر)
sequens , entis	تالي ، تابع (صفة)
sequor , eris , sec utus sum , sequi (deb .)	اتبع
sermo , onis	حديث ، محادثة ، لغة (مذكر)
sero , is , serui , sertum , ere (3)	اصل ، اربط
sero , is , sevi , satum , ere	ابذر ، ازرع (3)
servilis , e	خاص بالعبيد ، ذليل (صفة)

servilius , i i	سيرفيلبوس (مذكر)
servitium , ii	عبودية (جماد)
servitia , orum	العبيد ، الخدم
servitus , utis	عبودية (مؤنث)
servius , ii	سيرفيوس (مذكر)
servo , as , svi , atum , are	انفذ ، اخلص (1)
sestertius , ii	سيسترتيوس (عملة من الفضة) (مذكر)
severus , i	سيفيروس (مذكر)
severus , a , um	مهم ، هام ، خطير ، شديد ، صارم ، عنيف ، قاسي (صفة)
sex	ستة عدد غير معرب
sex = sextus	سيكستوس
sexaginta	ستون عدد غير معرب
sextus , a , um	السادس صفة عددية
sic	هكذا (ظرف)
sicca , ae	سيككا (مدينة في نوميديا) (مؤنث)
sicilia , ae	صقلية (مؤنث)
sicut	هكذا ، مثل (ظرف)
sidus , eris	نجمة (جماد)
significo , as , avi , atum , ar	اعرض ، اظهر ، ادل على ، ارسد ، اشير (1)

signum , i اشارة ، علامة ، دلالة (جماد)

similis , e مشابه لـ (+ القابل أو المضاف إليه) (صفة)

simulacrum , i تمثال ، صورة ، رسم ، شكل (جماد)

simulo , as , avi , atur , are اقلد (1)

simultas , atis مزاحمة ، منافسة ، مناظرة ، مسابقة ، عداوة (مؤنث)

sine بدون حرف جر + مفعول الأداة

singili , ae , a واحد لكل شخص ، واحد واحد

sinister , tra , trum ايسر

sino , is , sivi , situm , ere اسمح ... ان (+ المصدر) (3)

sitio , is , sitivi , (sitii) sititum , ire اعطش ، اشعر بالعطش لازم (4)

socitetas , atis مجتمع ، عصبية ، مخالفة ، معاهدة (مؤنث)

socrates , is سقراط (اسم علم) (مذكر)

sodalis , is زميل ، رفيق ، صديق (مذكر)

sol , solis شمس (مذكر)

solacium , ii عزاء ، سلوى ، مواساة (جماد)

soleo , es , solitus sum , ere (2) اتعود (لازم)

sollertia , ae مهارة ، حسن تصرف ، حيوية ، قدرة (مؤنث)

sollicito , as , avi , atum , are اثير ، اهيج (1)

sollicitus , a , um مضطرب ، مشغول (صفة)

solum	فقط (ظرف)
non solum ... sed etiam	ليس فقط ... بل ايضا
solus , a , um	وحيد ، فريد
solvo , is , solvi , solutum , ere	احرر ، اخلص ، اخلى سبيل ، افم ، اجل (3)
somnio , as , avi , atum , are	احلم (1)
somnium , ii	حلم ، رؤيا (جماد)
somnus , i	نوم ، نعاس (مذكر)
sonitus , us	صوت ، رنين (مذكر)
sonus , i	صوت ، ضجة ، كلمة (مذكر)
soror , oris	اخت ، شقيقة (مؤنث)
spartanus , a , um	اسبرطى ، من اسبرطة (صفة)
spatiosus , a , um	فسيح ، واسع ، مبسط (صفة)
spatium , ii	مسافة ، فترة (جماد)
speciosus , a , um	جميل ، لطيف (صفة)
specto , as , avi , atum	اشاهد (1)
spelunca , ae	كهف ، مغارة ، عرين (مؤنث)
speratus , a , um	آملا ، لديه أمل (اسم مفعول من sbero)
spes , sbei	امل (مؤنث)
spina , ae	شوكة (مؤنث)
splendidus , a , um	باخر ، فاخر ، فخم (فائق صفة)
sponsa , ae	خطيبة (مؤنث)
sponsum , i	خطبة ، مشروع زواج ، ارتباط (جماد)

statim	حالا ، فى الحال ، فورا (ظرف)
statius , ii	ستاتيوس (مذكر)
statuo , is , statui , statutum , ere	اقرر ، اثبت (3)
statura , ae	قامة ، قوام (مؤنث)
status , us	وضع ، حالة (مذكر)
statutus , a , um	مقرر ، ثابت (اسم مفعول من statuo)
sterilis , e	مجذب ، عقيم ، طائش
strenuus , a , um	ذو قيمة ، ثمين ، شجاع ، باسل ، جرىء ، مقدم (صفة)
strideo , es , stridi , ere (2)	اصيح ، اهتف
strido , is , stridi , ere (3)	اصيح ، اهتف
stultitia , ae	حمق ، غباء ، طيش (مؤنث)
stultus , a , um	احمق ، اخرق ، مجنون ، طائش (صفة)
stubor , oris	غباء ، حماقة ، بلادة (مذكر)
sub	تحت ، بالقرب من (حرف جر + المفعول به ومفعول الأداة)
subdolus , a , um	ماكر ، محتال ، خادع (صفة)
subeo , is , ii , itum , ire	اخلس ، احزر ، اخفى ، اسرق ، اسلب ، اختلس (3)
subeo , is , ii , itum , ire	اخضع ، انفذ ، اخترق ، احدث ، اتقدم ، اقترب
sublevo , as , avi , atum , are	اخفف ، اسكن ، ارفع ، الطف
sublinis , e	عال ، مرتفع ، سام ، رفيع الشأن (صفة)

substantia , ae	مادة ، جوهر (مؤنث)
subsum , es , subfui , subesse	أكون قريبا من ، أكون خاضعا (لازم)
subvenio , is , veni , ventum , ire	اساعد لازم (4)
suecedo , is , cessi , cessum , er(3)	اقترب ، اتقدم ، اتلو ، اتبع لازم
successor , oris	خلف ، تالى ، وارث (مذكر)
succurro , is , curri , cursum , ere	اخفف عن ، امد ، اساعد ، لازم + القابل (3)
suebi , orun	السوقييون (فى شمال شرق المانيا) (مذكر جمع)
sui , sibi , se , se	نفسه (ضمير شخص عائد مفرد وجمع)
subbicius , ii	سولبيكيوس (مذكر)
sum , es , fui , esse	أكون
summus , a , um , suberus	عال شاهق ، صفة مبالغة تفضيله من
summus , mons	اعلى الجبل ، قمة الجبل
sumo , is , sumbsi , sumbtum , er	آخذ ، انتقى (3)
suber	فوق ، فيما وراء (حرف جر + المفعول به ومفعول الأداء وظرف)
subertia , ae	عظمة ، ابية ، سناء ، بهاء (مؤنث)
suberbus , a , am	عظيم ، فاخر ، سنى ، بهى (صفة)
suberfluus , a , um	زائد ، غير لازم ، غير مفيد (صفة)
suberior , suberius	اعلى ، اقوى ، اسبق (صفة افعال تفضيل)
subero , as , avi , atum , are	اتغلب على ، اقهر (1)
subersum , es , fui , esse	افوق ، افوز ، اتفوق على ، ابرز (لازم)

subervivo , is , vixi , ere	اعيش ، ابقى لازم (3)
subblex , icis	ملتمس ، توسل ، مبتهل ، متضرع (صفة)
subblicium , ii	عقوبة ، قصاص ، الم ، عذاب (جماد)
subera	فوق ، على حرف جر + المفعول به وظرف
surgo , is , surrexi , surrectum , ere	انبع ، انفجر ، ابرع (3)
suscenseo , es , censi , censum , er	اتكدر ، اغضب ، اثور (لازم) (2)
suscibio , is , cebi , cebtum ,	اتحمل ، ادم ، اساعد ، احافظ على (3)
sustento , as , avi , atum ,	احافظ على ، اصوب ، اتمسك ، اؤيد (1)
suus , a , um	له ، لها ، لهم ، لهن
syracusae , arum	سرقسطة (مؤنث جمع)
syracusanus , a , um	السرقسطيون (صفة)
- t -	
t . = titus , i	تيتوس (مذكر)
tabula , ae	مائدة (مؤنث)
talentum , i	تالنت (عملة ووحدة موازين يونانية) (جماد)
talis , e	مثل ، كذا (صفة)
tam	جدا (ظرف)
tamquam	هكذا (ظرف)
tango . is , tatigi , tactum , ere	المس (3)

tanto	كثيرا ، بمقدار كذا يستعمل أمام أفعال التفضيل (ظرف)
tantum	كثيرا ، فقط ، لا غير (ظرف)
tentus , a , um	عظيم جدا (صفة)
tarentum , i	مدينة تارنتم (جماد)
tarquinius , ii	تاركوينيوس (اسم علم) (مذكر)
taurus , i	ثور (مذكر)
tectum , i	سقف ، منزل (جماد)
tego , is , texi , tectum , ere	اغطي ، اخفي ، استر(3)
tellus , uris	ارض
tellus , uris	(الهه الارض) (مؤنث)
telum , i	مزرار (جماد)
temeritas , atis	حالة ، مجازفة ، تهور ، طيش ، رعونة (مؤنث)
temberantia , ae	اعتدال ، ضبط النفس (مؤنث)
tembero , as , avi , atum , are	اهدأ ، اسكن
tembestas , atis	عاصفة (مؤنث)
temblum , i	معبد (جماد)
tembus , oris	وقت ، زمن (جماد)
tener , a , um	رقيق (صفة)
ter	ثلاث مرات (ظرف عددي)

tergum , i	ظهر ، خلف (جماد)
a tergo	في الخلف ، من وراء
terni , ae , a	ثلاثة لكل شخص
terra , ae	ارض (مؤنث)
terreo , es , ui , itum , ere	اخيف ، ارب ، ارهب
terrester , tris , tre	عالمى (ارضى) صفة
territo , as , avi , atum , are	اخيف ، افزع ، اروع (1)
testamentum , I	وصبة (جماد)
testis , is	شاهد (مذكر ومؤنث)
tetricus , a , um	هام ، خطير ، مهم (صفة)
teucra , ae	طروادة (مؤنث)
thebae , arum	طيبة (مؤنث جمع)
themistocles , is	ثيستوكليس (مذكر)
theodora , ae	ثيوديراء (مؤنث)
thermobylae , arum	ثرموبلاى (مؤنث جمع)
thesaurus , i	كنز (مذكر)
thraces , um	اهل تراقيا (مذكر جمع)
tiberis , is	نهر التبير (مذكر)
tiberius , ii	تبيوريوس (امبراطور رومانى (مذكر)

timeo , es , ui , ere	اخاف ، اخشى (2)
timoleon , ontis	تيموليون (قائد يوناني (مذكر)
timor , oris	خوف ، رعب ، (مذكر)
tissabernes , is	تسافيرنيس (ستراب فارسي) (مذكر)
titus , i	تيتوس (مذكر)
tonat , uit , are	ارعد فعل غير شخصي
tormentum , I	الم ، عذاب ، عقاب (جماد)
torbor , oris	كسل ، بطئ ، اهمال ، بلادة (مذكر)
torquatus , i	ثوركواتوس (مذكر)
torques , is	قلادة ، مصاغ (مذكر ومؤنث)
totus , a , um	كل ، جميع
trado , is , didi , ditum , ere	اسلم ، ادع ، أأتمن (3)
traduco , is , duxi , ductum , ere	انقل ، اغير ، احول (3)
traho , is , traxi , tractum , ere	اجر ، اسحب (3)
traicio , is , ieci , ieci , iectum , ere	انقل ، القى ، ارمى ، اطرح (3)
trans	عبر حرف جر + المفعول به
trnsseo , is , ii , itum , ire	اعبر (لازم)
transfero , fers , tuli , latum , ferr	انقل ، اغير ، احول
transitus , us	عبور (مذكر)
trasumenss , I	تراسوينوس (بحيرة) (مذكر)

trabonius , ii	تريبونيوس (مذكر)
trecenti , as , e	ثلاثمائة لكل واحد
trecentesimus , a , um	الثلاثمائة
tres , tria	ثلاثمائة عدد اصلي
treveri , orum	التريفيريون (شعب الماني) مذكر جمع
tribunal , alis	منبر (منص خطابة) محكمة ، دار القضاء (جماد)
tribunus , i	التربيون (المدافع عن حقوق العامة) (مذكر)
tribuo , is , tribui , tributum , ere	امنح ، اخصص (3)
triceni , ae , a	ثلاثون لكل واحد
triennium , ii	فترة ثلاثة أعوام (جماد)
trigesimus , a , um	الثلاثون (صفة عددية)
triginta	ثلاثون عدد غير معرب
trimalchio , onis	ريمالخيو (مذكر)
tribus , bodis	ركيزة من ثلاثة قوائم (مذكر)
triremis , is	سفينة ثلاثية المجاديف على كل جانب (مؤنث)
tristis , e	محزن (حزين) (صفة)
triumbho , as , avi , atum , ar	انتصر ، افوز ، اظفر ب لازم (3)
triumbus , I	نصر (مذكر)
triumvir , i	عضو اللجنة الثلاثية (مذكر)

troia , ae	طروادة (مؤنث)
troianus , a , um	طروادى (صفة)
trucido , as , avi , atum , are	اقتل ، اغتال (1)
tu	انت ضمي المخاطب المفرد
tueor , eris , tuitus , sum , eri , (deb,	احرس ، أذافع عن (2)
tullia , ae	توليا (وخاصة ابنة شيشرون) مؤنث
tullius , ii	توليوس (مذكر)
tum	عندئذ (ظرف)
cum ... tum	سواء ... أو
tumultuans , antis (tumultue	ثائر ، مضطرب (اسم فاعل من
tumultus , us	اضطراب ، ثورة (مذكر)
tumulus , i	تل (مذكر)
turbis , e	قبيح ، مخز ، عكر (صفة)
tuscia , ae	توسكيا ، اثوروبا (مؤنث)
tutela , ae	حماية ، وصاية ، وقاية ، رعاية (مؤنث)
tutus , a , um	آمن ، سالم و (صفة)
tuus , a , um	لك (صفة ملكية للمخاطب)
tyrannis , idis	طغيان (مؤنث)
tyrannus , i	طاغية (مذكر)

- U -

uber , uberis	خصيب ، مثمر ، وافر (صفة)
ubi	عندما ، حينما (ظرف و حرف ربط)
ubicumque	في كل مكان (ظرف)

ubii , orum

الاولبيون (من شعوب المانيا (مذكر جمع)

ulixes , is

أوديسيوس (مذكر)

ulterior

ابعد ، اكثر بعدا (صفة للتفضيل من ultra)

ultimus

الاخير (مبالغة تفضيل من ultra)

ultra

ما وراء (حرف جر + المفعول به وظرف)

ultra

بعيدا ، اكثر من ذلك ، ايضا (ظرف)

umbra , ae

ظل ، خيال ، شبح (مؤنث)

umquam

ابدا (ظرف)

unda , ae

موجة (مؤنث)

undeviginti

من أين ؟ (ظرف)

undeviginti

تسعة عشر عدد غير معرب

unguis , is

ظفر ، حافر (مذكر)

universus , a , um

عام ، جامع ، شامل (صفة)

unns , a , um

واحد عدد أصلي

unusquisque , unaquaeque , unumquodque

كل واحد

urbs , is

مدينة (مؤنثة)

a . u . c . = a condita

من تاريخ انشاء المدينة (روما)

urgeo , es , ursi , ere

اطارد ، الاحق ، اتعقب ، اقترب

usque

حتى ، لغاية (ظرف)

usque ad

حتى ، لغاية

usurbo , as , avi

اغتصب ، استعمل ، استخدم(1)

ut

مثل ، ك (ظرف)

ut كى (+ الصيغة المصدرية) حرف ربط

uter , utra , utrum اى (الاثنين) ضمير استفهامى

uter , utra , utrum واحد من اثنين ، ايهما ضمير مبهم

uterque , utraque , utrumque كلاهما

utilis , e مفيد ، نافع لـ (+ المقابل (صفة)

utilitas , atis فائدة ، نفع (مؤنث)

utor , eris , usus sum , uti (deb) استعمل لازم + مفعول الاداة (3)

uva , ae العنب (مؤنث)

uxor , oris زوجة (مؤنث)

uxorem ducere اتزوج ، اتخذ زوجة

- V -

vacca , ae بقرة

vacillans , مذذب ، متردد ، متحير (اسم فاعل من vacillo)

antis

valens , entis نشيط ، امين ، مخلص ، قادر ، باسل ، شهيم

valeo , es , ui , (itum) , ere اكون قادرا ، استحق لازم (2)

valerius , ii فاليريوس (مذكر)

valetudo , inis صحة ، صحة جيدة (مؤنث)

validus , a , um قوى ، هام (صفة)

vallum , i سياج ، سور ، حاجز ، خندق (جماد)

varius , a , متنوع ، متغير ، مختلف ، متعدد الاشكال ، نشيط ، ملئ بالحركة (صفة)

um

varus , i	فاروس (مذكر)
vasto , as , avi , atum , are	اخرب ، ادمر ، اقتحم (1)
vehemens , entis	متهور ، مندفع ، حاد ، قوى ، شديد ، عنيف (صفة)
vehementer	بشدة ، بعنف ، بقوة (ظرف)
veho , is , vexi , vectum , ere	اثقل ، احمّل (3)
veientani , orum	سكان مدينة فيبي (مذكر جمع) veii
veientes , ium	سكان مدينة فيبي (مذكر جمع)
vel	أو بالأحرى (ظرف وحرف ربط)
venatio , onis	صيد ، قنص ، مطاردة (مؤنث)
vendo , is , didi , ditum , ere	ابيع (3)
venenum , i	سم (جماد)
veneo , is , venii , venum , ire	اباع يستعمل كمبنى للمجهول
venio , is , veni , ventum , ire , (4)	اين ، اجئ (لازم) (4)
venter , tris	بطن ، جوف (مذكر)
ventidius , ii	دينتيديوس (مذكر)
ventus , i	ريح (مذكر)
ver , veris	الربيع (جماد)
verbero , as , avi , atum , are (1)	أجلد ، اضرب
verbum , I	كلمة ، قول ، فعل (جماد)
veritas , atis	حقيقة ، صدق ، صواب (مؤنث)

verres , is	فيروس (برايتور روماني) (مذكر)
verum , i	حقيقة ، صواب ، صدق (جماد)
verum	مع أن ، مع ذلك (ظرف)
verus , a , um	حقيقي (صفة)
vescor , eris , vesci	آكل ، اتغذى لازم + مفعول الأداة (3)
vester , stra , rtrum	لكم ، لكن (صفة ملكية)
vestinius , ii	فيستينيوس (مذكر)
vestitus , us	ملبس ، لباس ، فستان (مذكر)
veto , as , vetui , vetitum	انهى ، اعترض (1)
vetus , eris	قديم (صفة)
vetustas , atis	شيخوخة ، قدم (مؤنث)
vetustus , a , um	عجوز ، قديم ، عتيق ، هرم (صفة)
via , ae	طريق ، شارع (مؤنث)
vicesimus , a , um	العشرون (صفة عددية)
victor , oris	ظافر ، منتصر (مذكر)
victoria , ae	نصر ، انتصار (مؤنث)
victus , a , um	مهزوم (اسم مفعول من vinco)
video , es , vidi , visum , ere	ارى (2)
videor , eris , visum , sum , eri	ابدو ، اظهر
vigilia , ae	يقظة ، تنبه ، ترقب (الجمع ، عس ، حراسة) (مؤنث)
viginti	عشرون عدد غير معرب
vigor , oris	قوة ، نشاط (مذكر)

vilis , e	حقير ، وضعيع (صفة)
villa, ae	منزل بحديقة ، بيت ريفى (مؤنث)
viminalis , is	فيميناليس (مذكر)
vincio , is , vinxi , vinctum	اربط ، اجد ، اسحر ، افتن ، اسبى (4)
vinco , is , vici , victum , ere (3)	اهزم ، اقهر ، اتقلب على (3)
vinculum , i	عقدة ، رباط (فى الجمع = سجن) (جماد)
vinea , ae	اقذف بشخص ما فى السجن
vinum , i	نبيذ ، خمر (جماد)
violens , entis	شديد ، عنيف ، هائج
violo , as , avi , atum are	اسئ معاملة ، اتعدى على اغتصب (1)
vir , i	رجل (مذكر)
viridis , e	اخضر (صفة)
virtus , utis	شجاعة ، فضيلة (مؤنث)
virus , i	سم (جماد)
vis , vis	عنف ، قوة (مؤنث)
vitis , is	كرم ، عنب (مؤنث)
vitium , ii	رذيلة ، نقیصة (جماد)
vito , as , avi , atum , are	اتجنب (1)
vitrum , i	زجاج (جماد)

vitulus , i	لحم العجل (مذكر)
vitubr , as , avi , atum , are	أذم (1)
voco , as , avi , atum , are	انادى ، ادعو (1)
volo , vis , voui , velle	اريد ، ارغب
volo , as , avi , atum , are	اطير لازم (1)
volsci , orum	الفلسكيون (شعب من لاثيوم) مذكر جمع
volucer , cris , cre	طائر ، مجنح (صفة)
volucis	طائر ، عصفور
volumen , inis	مجلد (كتاب) مؤلف (جماد)
vos	انتم (ضمير شخص للمخاطبين)
votum , i	نذر ، وعد (جماد)
vox , vocis	صوت (مؤنث)
vulcatius , ii	فولكاتيوس (مذكر)
vulgus , i	شعب ، عامة ، رعا (جماد)
vulnero , as , avi , atum , are	اجرح (1)
vulnus , eris	جرح (جماد)
vulbecula , ae	ثعلب (مؤنث)
vulbes , is	ثعلب (مؤنث)

- X -

xenthibbe , es

كسانشيبى (زوجة سقراط) مؤنث

xenobhon , ontis

كسينوفون (مؤرخ اثينى) (مذكر)

- Z -

zema ae

زاما (مدينة فى نوميديا) مؤنث

zenobia , ae

زنوبيا (ملكة شرقية) مؤنث

zenon , onis

زينون (فيلسوف يونانى) مذكر

.....

.....

.....

....

..

المراجع الأنجليزية المستخدمة فى الكتاب

Doc : Sadek , “ Lingua Latina “ , Ain Shams university.

Doc : Sadek , “ Fabula Latinae “ , Ain Shams university.